



Al Meezan
Investment Management Ltd.

AM1
Rating by VIS & PACRA

PERFORMANCE
THAT GOES THE
EXTRA MILE
ANNUAL REPORT
JUNE - 2024

2024



AL MEEZAN FAMILY OF FUNDS



Meezan
Rozana Amdani
Fund



Meezan
Cash Fund



Meezan
Islamic Income Fund



Meezan
Sovereign Fund



Meezan
Daily Income Fund



Meezan
Fixed Term Fund



Meezan
Islamic Fund



Al Meezan
Mutual Fund



KSE-Meezan
Index Fund



Meezan
Tahaffuz Pension
Fund



Meezan
Balanced Fund



Meezan
Asset Allocation
Fund



Meezan
Gold Fund



Meezan
Pakistan Exchange
Traded Fund



Meezan
Financial Planning
Fund of Funds



Meezan
Strategic Allocation
Fund



Meezan
Strategic Allocation
Fund-II



Meezan
Strategic Allocation
Fund-III



Meezan
Dedicated Equity
Fund



Meezan
Energy Fund



Meezan
GOKP Pension Fund



TABLE OF CONTENTS

- 05** WHO WE ARE
- 06** VISION AND MISSION
- 07** CORE VALUES
- 09** MILESTONES FOR FY 2024
- 10** BOARD OF DIRECTORS' PROFILE
- 16** DIRECTORS' REPORT



- Fund Information
- Report Of The Fund Manager
- Report Of The Shariah Advisor
- Trustee Report To The Unitholders
- Independent Auditors' Report To The Unitholders
- Statement Of Assets And Liabilities
- Income Statement
- Statement Of Comprehensive Income
- Statement Of Movement In Unitholders' Fund
- Cash Flow Statement
- Notes To & Forming Part Of The Financial Statements



MRAF	MCF	MIIF	MSF	MDIF	MFTF	MIF	AMMF	KMIF	MDEF	MEF	MTPF	MBF	MAAF	MGF	MPETF	MFPF	MSAF	MSAF-II	MSAF-III	MGOKPPF
49	89	125	161	195	260	340	380	418	455	492	527	571	612	648	679	712	751	795	834	864
50	90	126	162	196	261	341	381	419	456	493	528	572	613	649	680	713	752	796	835	865
52	92	128	164	206	275	345	385	422	459	496	532	576	616	651	683	716	755	798	837	867
53	93	129	165	207	276	346	386	423	460	497	533	577	617	652	684	717	756	799	838	868
54	94	130	166	208	277	347	387	424	461	498	534	578	618	653	685	718	757	800	839	869
57	97	133	169	211	280	350	390	427	464	501	537	581	621	656	688	721	760	803	842	871
58	98	134	170	213	282	351	391	428	465	502	538	582	622	657	689	723	762	805	843	872
59	99	135	171	215	284	352	392	429	466	503	538	583	623	658	690	725	764	807	844	872
60	100	136	172	217	286	353	393	430	467	504	539	584	624	659	391	726	765	808	845	873
61	101	137	173	219	290	354	394	431	468	505	542	585	625	660	692	728	769	810	846	876
62	102	138	174	229	292	355	395	432	469	506	543	586	626	661	693	730	771	812	847	877


WHO WE ARE

Al Meezan Investments has a vision: To make Shariah Compliant Investing a first choice for investors. With the largest and most diverse customer base of over 301,000 investors, ranging from institutions and businesses to individuals and High Net Worth clients, we offer investment solutions, mutual funds and investment advisory services catering to specific needs of each of our customers.

Our aim is to innovate and consistently perform, thereby facilitating investors in achieving their financial objectives in a Shariah Compliant manner. Our philosophy is based on our 5 Core Values (Shariah Compliance, Ethical Standards, Professional Excellence, Service Excellence, Social Responsibility) which enables us to perform in harmony with our mission to establish Al Meezan as a leading and trusted brand for savings and investments.

As the Largest Fund Manager in Pakistan with over Rs.503 Billion assets under management (as of 30th June, 2024) and with the highest management quality rating of AM1 awarded by VIS & PACRA, we offer a comprehensive range of Shariah Compliant investment solutions ranging from equity, balanced, asset allocation, fixed income, money market, capital preservation, fund of fund, commodity, Open End Islamic CIS as per SECP's Circular No.3 of 2022 and voluntary pension scheme. Depending on each investor's need, we provide expert guidance to them to achieve their financial objectives.

Our Separately Managed Accounts, popularly known as SMAs, offer clients a relatively customized option to Portfolio structuring and Investment Management. Under this Investment Advisory service, we offer our esteemed clients with a cost-effective solution to draft their own portfolio objectives and requirements, all the while, providing expert guidance and suggestions on how to achieve their investment objective.





VISION

To make Shariah Compliant investing a first choice for investors.

MISSION

To establish Al Meezan as a leading and trusted brand for savings and investments by offering innovative Shariah Compliant investment solutions through ethical conduct, value added services and optimal returns, while protecting the interest of all stakeholders



OUR CORE VALUES

Our Core Values are the 5 pillars of our foundation. They reflect and reinforce our character and standing as an organization. These values depict the paradigm of our internal and external expectations: Our dealings with members of the organization, our customers, the shareholders and the communities we serve. Our corporate culture is based on these values and serves as a beacon of guidance for all our employees.

Our values are not about what we do or how we do it in fact they are about who we are and why we exist. These values, which fuel our drive to achieve newer milestones at every step of our journey to success are:

Shariah Compliance

We ensure that all business operations and activities are Shariah Compliant. As a Shariah Compliant entity we are also accountable for ensuring that rulings and decisions made by the Regulators, Shariah Board and Shariah Advisors are Complied with across the organization.



Ethical Standards

We practice high ethical standards at work and in our services. Maintaining high ethical standards in the workplace translates in prioritizing the interest of the client, acting with integrity, competence and diligence, and respecting our dealings with the public, clients, prospective clients and colleagues.

Professional Excellence

Professional excellence is about achieving excellence as an employee. It is at the core of being a “professional.” Ensuring our approach to work and the people we work with – supervisors, colleagues and/or customers – is in a professional and respectful manner.

Service Excellence

Service excellence is an attitude engrained in every department and employee. From support staff to the CEO, we simply go beyond delivering products and helping customers achieve their financial objectives. It is essential that we provide a unique customer experience by proactively anticipating and exceeding customers needs every time. Excellence is a consistent, premium service at every point of contact which is set by our service-oriented tone that drives our company’s strategy at every level.

Social Responsibility

We work in an ethical framework, which suggests that as an entity we have an obligation to act for the benefit of our society at large. We want to contribute towards sustainable development not only through our products but also through the way we conduct business.



MILESTONES FOR FY 2024



Proud to maintain **AM1** rating, which is the highest management quality rating in Pakistan awarded by both VIS and PACRA (Credit Rating Companies).

Successfully maintained and strengthened its position as the **Largest Asset Management Company in Pakistan** with Assets under Management of over **PKR 500 Billion** (as of June 30th, 2024)

Category Leader as the **Largest Shariah Compliant Manager** of private sector

- Money Market Fund – Meezan Rozana Amdani Fund
- Income Fund – Meezan Daily Income Fund
- Pension Fund – Meezan Tahaffuz Pension Fund

One of the Largest Investor Base of Over **301,000** Customer (as of June 30th, 2024)

New Product Launches

- Launch of **Meezan Paaidaar Munafa Plan** Series (MPMP-VIII, MPMP-IX, MPMP-X & MPMP-XII).

Awards and Recognition

- Al Meezan Roshan Digital Investment Accounts crossed **PKR 1 Billion** in Assets Under Management.
- Awarded **“Most Ethical Shariah Compliant Investment Manager 2024”** by Pakistan Wealth & Finance.
- Awarded **“Best Asset Management Company in Pakistan”** by CFA Society Pakistan and **“Asset Management Company of the Year”** at the 8th Islamic Finance Forum of South Asia (IFFSA) awards.

Innovative Investment Solutions – Wherever You Are, Whenever You Want

- **RAAST Payments**
Investing Made Convenient: Transfer funds directly from your bank account without any charges.
- Launch of **Inter Bank Fund Transfers & Bill Payment Services.**

Expanded its footprint in Central and Northern Regions

- Opened its 4th **Branch in Lahore**
- Opened its 2nd **Branch in Islamabad**

Total Number of Transactions done in the Year: **11,976,801**



Mr. Irfan Siddiqui

Chairman

Mr. Irfan Siddiqui is the founding President and CEO of Meezan Bank. He is also a member of the Information Technology Committee and of IFRS 9 Implementation Oversight Committee of the Board. Having articulated with Coopers & Lybrand, London from 1975 - 1979, Mr. Irfan Siddiqui qualified as a Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. He has held several senior management positions including Chief Executive Officer at Al Meezan Investment Bank Limited, General Manager at Pakistan Kuwait Investment Company, Chairman, Al Meezan Investment Management Advisor to the Managing Director at Kuwait Investment Authority, Manager Finance and Operation at Abu Dhabi Investment Company and Senior Business Analyst at Exxon Chemical (Pakistan) Ltd.

Current Positions:

- Member of the Board of Trustees, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Bahrain
- Member of the Government of Pakistan Advisory Committee of the Planning Commission
- Member of the IBA Centre of Excellence in Islamic Finance, (CEIF), Board of Management
- President of the Islamic Finance Association of Pakistan
- Member of the Government of Pakistan sub-committee on awareness, training and capacity building for Promotion of Islamic Banking in Pakistan
- Council Member, Institute of Bankers Pakistan (IBP)
- Chairman, Institute of Bankers Pakistan (IBP) HR Committee
- Member of the Steering Committee of Housing & Construction Finance
- Member of the Steering Committee for providing strategic guidance regarding implementation of Federal Shariat Court (FSC)'s judgement on Riba
- Chairman of Steering Committee on Media Campaign - Improving Islamic Finance Literacy
- Member of the State Bank of Pakistan, Electronic Warehouse Receipt Financing Implementation Task Force (ETF)
- Member of the Securities & Exchange Commission of Pakistan, Capital Market Advisory Council
- Member of the Ministry of Finance Steering Committee for Establishment of Hajj Fund
- Member of the Board of Directors, Al Meezan Investment Management Limited

Other Recent Offices held:

- President of the Overseas Investors Chamber of Commerce and Industry
- Member of the Managing Committee, Overseas Investors Chamber of Commerce and Industry
- Member of Government of Pakistan Steering Committee for the 'Promotion of Islamic Banking in Pakistan' (2013 - 2016)

Mr. Ahmed Iqbal Rajani

Non-Executive Nominee Director- PKIC

Mr. Ahmed Rajani is a seasoned Investment Banking professional with more than 15 years of experience in M&A, Debt & Equity Capital raising, and Strategic Placements. Currently serving as the Head of Investment Banking at Pakistan Kuwait Investment Company (Private) Limited, Mr. Rajani has previously held key positions in Senior Investment Banking roles at Arif Habib Limited and AKD Securities Limited.

His educational background includes a BSc (Hons) from Lahore University of Management Sciences (LUMS) and a Master of Business Administration from the Institute of Business Administration (IBA), Karachi.

Ms. Danish Zuberi

Independent Director

Ms. Danish is an Advocate of the High Court and advises corporates and family run businesses on a wide variety of corporate and commercial matters, taxation, oil and gas, competition, arbitration and mediation.

Ms. Danish commenced her career at the premier litigation set namely Fazle Ghani, Advocates and thereafter established her independent practice. She was the General Counsel of Pakistan Petroleum Limited before taking up a partnership at Vellani & Vellani.

Ms. Danish has been certified by CEDR as a Mediator. She also has a keen interest in human rights law and has served on the boards of various non-profit organisations.

Education

- LLB, University of Wales, Aberystwyth – 1994
- Barrister at Law – 1995

Mr. Feroz Rizvi

Independent Director

Mr. Feroz Rizvi is a Chartered Accountant, having qualified from England & Wales. He has over 43 years of local & international experience in some of the largest companies in the world.

On returning to Pakistan post qualification, he joined ICI Pakistan Ltd, a subsidiary of ICI PLC, one of the largest chemical companies in the world. He left ICI Pakistan Ltd in 1985 and after five years with Petromin Refinery Riyadh, KSA, he re-joined ICI Pakistan. In 1996 he was seconded to ICI PLC's headquarters in London.

During his secondment, he was involved in ICI PLC's strategic shift from industrial to consumer & effect chemicals, leading to a major acquisition of four chemical companies from Unilever PLC for USD 8 Bn, as part of the group's major strategic priority. In addition, he was also responsible for a number of divestments of ICI PLC's major industrial chemical businesses in accordance with the group's strategic move. Back in Pakistan after secondment, he completed the demerger of ICI Pakistan's Paints and PTA businesses into separate listed companies, leading to the sale of the latter to Lotte (a Korean conglomerate) and the former's transfer to Akzo Nobel. In ICI Pakistan he also implemented the state of the art SAP ERP system across the group. He retired from ICI Pakistan Ltd as CFO & Finance Director. He has also been CEO of Pakistan Institute of Corporate Governance.

Mr. Rizvi has extensive experience in corporate & financial strategy, taxation, corporate governance, restructuring and mergers & acquisitions. Besides ICI Pakistan Ltd, he was a board member of Pakistan PTA Ltd, Faysal Asset Management Ltd, Atlas Insurance Ltd. and Pakistan Oxygen Ltd. Currently, he is on the Boards of Engro Chemicals and Polymer Ltd and 1 Link (Pvt.) Ltd. He is an alumni of INSEAD France and Wharton Business School and lectures on corporate governance, business strategy and related areas to Board members and other senior executives.

Mr. Furquan R Kidwai

Independent Director

Mr. Furquan R Kidwai is the Founder & CEO of Dawaai (Pvt.) Limited. He is a technology entrepreneur who has built the largest health technology company in Pakistan over the past five years. Prior to this journey, Mr. Kidwai was an investment banker for over eight years in London and New York where, in his last role, he was the Head of CEEMEA Financing as well as a Senior Vice President in the Fixed Income trading business at the Royal Bank of Scotland. Before joining RBS, Mr. Furquan worked as an Associate at Merrill Lynch and Lehman Brothers in their London and New York offices. He has also served as a member of the Board of Imperial College of Science, Technology and Medicine, London.

Mr. Furquan pursued International Relations for a Master's degree at Cambridge University. He also has an MSc in Financial Mathematics with specialization in Risk Management from Imperial College London and BEng in Computer Systems from Bristol University.

Mr. Imtiaz Gadar

Chief Executive Officer

Mr. Imtiaz Gadar is a seasoned finance professional with a distinguished and award winning career spanning over two decades consistently delivering exceptional results across diverse facets of the financial industry, including Portfolio Management, Investment Banking, Equity Brokerage, Research and Investor Relations.

During his most recent assignment as the Chief Executive Officer of JS Global Capital Limited, he orchestrated the firm's ascent to a strong market position within the industry. His leadership was instrumental in securing multiple prestigious awards from CFA Society Pakistan, AsiaMoney, ICAP and Finance Asia, recognizing achievements in Equity Research, Sales, and Investment Banking.

Prior to his role at JS Global Capital, he served as Executive Vice President and Head of Capital Markets at Bank Alfalah Limited. During his tenure, he established and led high performing teams responsible for Public and Private Principal Investment and Advisory businesses. Under his guidance, the bank garnered consistent recognition as the Best in Investor Relations for eight consecutive years by the CFA Society Pakistan and secured awards in the category of Best Equity Corporate Finance House (Banks) on three separate occasions.

His career trajectory also encompasses significant experience in local and international broking and Investment Banking, through his roles at JP Morgan Pakistan and the local affiliate of Bank of America - Merrill Lynch. His contributions to these organizations were marked by exceptional performance, culminating in multiple recognitions as Best Pakistan Analyst by CFA Society Pakistan and a five-year streak of accolades from AsiaMoney.

As part of his Investment Banking efforts at different organizations, he has successfully executed complex financial transactions valued at over US\$1.8 Billion. These include Mergers & Acquisitions, Buybacks, Global Depository Receipt Offerings, Initial Public Offerings, Secondary Public Offerings, Rights Offerings, and Tender Offers.

He is a Chartered Financial Analyst (CFA) and Masters in Business Administration (MBA) with 2 Gold Medals Overall & Finance, from the Institute of Business Administration, Karachi.

Mr. Saad Ur Rahman Khan

Non-Executive Nominee Director-PKIC

Mr. Saad Ur Rahman Khan has an extensive banking career spanning more than 30 years in the area of Retail, Trade, SME, Commercial, Corporate, Investment Banking, Financial Institution, International Banking and Risk Management. He is currently serving as Managing Director / Director of Pakistan Kuwait Investment Company (Private) Limited (PKIC). Currently, he is also serving as a nominee director of PKIC on the Board of Meezan Bank Limited and National Clearing Company of Pakistan Limited.

Mr. Saad started his professional journey with MCB Bank Limited in 1993, he has since held numerous senior roles in large local and multinational banks including Citibank, National Bank of Pakistan, Habib Bank Limited and Bank Alfalah Limited. He has also served as a director on the Boards of Alfalah Asset Management Limited, NBP Fund Management Limited, National Bank of Pakistan Kazakhstan, National Bank of Pakistan Tajikistan, Sapphire Wind Power Company Limited and Triconboston Consulting Corporation (Private) Limited. Mr. Saad is a graduate of the Institute of Business

Ms. Shazia Khurram

Non-Executive Nominee Director-MBL

Ms. Shazia Khurram is a Senior Retail Banking Executive with over 20 years of experience in retail banking business, product development, wealth management, consumer assets, sales and customer experience. Entrepreneurial-minded and motivational leader recognized for consistently exceeding customer expectations and organizational goals through diverse situational challenges while upholding company values with utmost integrity. Notable experience in the development of digital products and services.

Syed Amir Ali

Non-Executive Nominee Director-MBL

Mr. Syed Amir Ali excelled in the ambit of Finance, Treasury, Investment & Corporate Banking throughout his association with domestic and international organizations i.e. A.F Ferguson & Co, Shell, Bank Islami Pakistan Limited and Meezan Bank. In his first tenure with Meezan Bank he spearheaded corporate and investment group before moving to Bank Islami in 2018 as a President & CEO. Now he has re-joined Meezan Bank as a Deputy CEO.

His diverse credentials as a Chartered Accountant (Gold Medallist) from the Institute of Chartered Accountants of Pakistan and in England & Wales, CFA Charter holder, MBA (Gold Medallist) and LLB are testament to his progression in the Financial Industry.


Mr. Tariq Mairaj

Non-Executive Nominee Director- MBL

Mr. Tariq Mairaj is working as EVP & Financial Controller at Meezan Bank Limited. Mr. Tariq is an experienced Finance Professional with more than twelve years of experience in Financial Control function and is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan. Prior to joining Meezan Bank, Mr. Tariq was associated with KPMG Taseer Hadi & Co. (a member firm of the KPMG Network of independent member firms affiliated with KPMG International).

Mr. Tariq has also conducted sessions on Islamic Finance as a Trainer with IBA – Centre for Excellence in Islamic Finance.

OUR BRANCH NETWORK



SOUTHERN REGION

FTC Branch, Karachi

Ground Floor, Finance and Trade Centre,
Shahrah-e-Faisal, Karachi
Tel: (92-21) 111-633-926, 35630722-26

Sales Hub, Karachi

Banglow # 43-5-E/2, Shah Abdul Latif Road,
PECHS Block 6, Karachi.
Tel: (92-21) 34559262-5

North Nazimabad Branch, Karachi

Shop # G-1, G-2, Ground Floor, Ajwa Residency,
B-1, Block-L, North Nazimabad, Karachi
Tel: (92-21) 36641491-4, 021-37132530, 021-36100074

Bahadurabad Branch, Karachi

Shop # 4, Ground Floor, Adam Arcade, B.M.C.H Society,
Shaheed-e-Millat Road, Block #3, Karachi
Tel: (92-21) 34923112-6

DHA Branch, Karachi

Shop # 01 Ground Floor, Sunset Commercial St-02,
Khayaban-e-Jami, Near Baitussalam Masjid, Phase IV,
D.H.A Karachi.
Tel: (92-21) 35802411-4

Gulshan-e-Iqbal Branch, Karachi

Shop # 02, Ground Floor, Shelozon Center,
Block 15, Gulshan-e-Iqbal Karachi.
Tel: (92-21) 34990491-4

Site Area Branch, Karachi

Shop # 22, Ground Floor S.P Chamber,
Plot # B/9-B-1, SITE Area, Karachi.
Tel: (92-21) 32570051-2

DHA, Badar Commercial Branch, Karachi

Plot # 8C, Shop # 03, Street # 10, Badar Commercial,
DHA Phase V, Karachi.
Tel: (92-21) 35171381-4, 021-37131680-1, 021-37131683-4

Gulistan-e-Jauhar Branch, Karachi

Plot # B11, Shop # 06, Ground Floor, Alam Shah Bukhari
Apartment (Right Opposite Hilltop Banquet Hall),
Block -19, Gulistan-e-Jauhar, Karachi.
Tel: (92-21) 34187181-84

Clifton Branch, Karachi

Shop # 3, Ground Floor, Plot # D-39,
Tabba Tower Gizri Road, Karachi
Tel: (92-21) 35155219-21

Malir Cantt Branch, Karachi

Shop # P-5/A/64, Station Shopping Complex,
Ziarat Lane, Malir Cantt, Karachi
Tel: (92-21) 36104624-30

Hyderabad Branch

Shop # A-1 , 1 & 2, Mezzanine Floor Shifa Heaven,
Main Auto Bhan Road Hyderabad
Tel: (92-22) 3821277-80

CENTRAL REGION



Gulberg Branch, Lahore

Ground Floor, Leeds Centre, Gulberg III,
Main Boulevard, Lahore
Tel: (92-42) 111-633-926, 042-35783608-12,
042-32560548

DHA Branch, Lahore

1st Floor, Meezan Bank T Block Branch,
Plot No. 7, CCA-2, Phase II, DHA Lahore.
Tel: (92-42) 35747060-3, 042-32560125

Johar Town Branch, Lahore

Plot No.39, Block-L, M.A. Johar Town Scheme,
Abdul Haq Road, Lahore.
Tel: (92-42) 32510568, 042-32510561,
042-32510562

DHA Phase 6 Branch, Lahore

1st Floor, Plot # 3, Sector A, Phase 6 Commercial Area,
DHA Lahore. (Near DHA Main Office Complex)
Tel: (92-42) 32560125

Faisalabad Branch (Susan Road)

Shop # 27, First Floor, Plot # 27, Susan Road Near
Chenab Market, Faisalabad
Tel: 041-8503267, 041-8503268, 041-8503269,
(92-41)5250001

Multan Branch

1st Floor, Meezan Bank Rasheedabad Chowk Branch,
Aneesa Plaza Rasheedabad Chowk, Khanewal Road
Multan.
Tel: (92- 61) 6305911-3, (061) 2001001-2

Gujranwala Branch

Ground Floor, 387-A, Model Town, Gujranwala
Tel: (92-55) 842205-8

Sialkot Branch

Second Floor Meezan Bank, Gayum plaza,
Aziz Shaheed Road, Sialkot Cant, Sialkot
Tel: (92-52) 4290460-2

Gujrat Branch

P-1037, Ground Floor, G.T Road, IX Block, Gujrat
Tel: (92-53) 3724766-67

Bahawalpur Branch

Shop # 27, Ground Floor Liberty Square, Fuji
Basti Chowk, Airport Road, Bahawalpur Cantt
Tel: (92-301) 1121912

NORTHERN REGION



Islamabad Branch

Office No.7 Ground Floor, Buland Markaz Jinnah
Avenue Blue Area, Islamabad.
Tel: (92-51) 7080414-15, 051-7080408

Peshawar Branch

Office No.6-D , Ground Floor, 6 Saddar Road ,
Peshawar Cantt, Peshawar.
Tel: (92-91) 5271911-14

Abbottabad Branch

Office No.2, 3rd Floor Zaman Plaza ,Near Ayub
Medical Complex ,Mansehra Road, Abbottabad.
Tel: (92-992) 414123-24

Rawalpindi Branch

Plot # 17, Zubair Plaza, 1st Floor, Chaklala Scheme III,
Main Commercial Area Rawalpindi Cantt, Rawalpindi.
Tel: (92-51) 5766364-6





DIRECTORS' REPORT – **FUNDS UNDER MANAGEMENT COMPANY**

The Board of Directors of Al Meezan Investment Management Limited is pleased to present the financial statements of the following open-end funds and a voluntary pension scheme for the year ended June 30, 2024.

Money Market Fund

1. Meezan Rozana Amdani Fund
2. Meezan Cash Fund

Income Funds

3. Meezan Islamic Income Fund
4. Meezan Sovereign Fund
5. Meezan Daily Income Fund

Shariah Compliant Fixed Rate/Return or Open-end CIS as per SECP's Circular No. 3 of 2022

6. Meezan Fixed Term Fund

Equity Funds

7. Meezan Islamic Fund
8. Al Meezan Mutual Fund
9. KSE-Meezan Index Fund
10. Meezan Dedicated Equity Fund
11. Meezan Energy Fund

Pension Fund

12. Meezan Tahaffuz Pension Fund
13. Meezan GOKP Pension Fund

Balanced Fund

14. Meezan Balanced Fund

Asset Allocation Fund

15. Meezan Asset Allocation Fund

Commodity Fund

16. Meezan Gold Fund

Exchange Traded Fund

17. Meezan Pakistan Exchange Traded Fund

Funds of Funds

18. Meezan Financial Planning Fund of Funds
19. Meezan Strategic Allocation Fund
20. Meezan Strategic Allocation Fund-II
21. Meezan Strategic Allocation Fund-III



Pure. Profit.



Economic Review

Pakistan's economy staged a strong recovery during FY24, posting a GDP growth of 2.4% against decline of 0.20% in FY23. The economy was able to emerge from the most severe balance-of-payment crises since the 1990s, mainly because of the short-term IMF Stand-By Arrangement (SBA) program of USD 3 billion, from July 2023 to March 2024. The period saw significant disinflation, where the headline inflation fell from a recent peak of 38.4% in May 2023 to only 12.4% in June 2024. Other major economic indicators, such as FX reserves, current account balance and primary balance showed considerable improvement over the period as well, based on preliminary data. The period also saw the first interest rate cut by the SBP since 2021, by 150bps in June 2024 taking the policy rate to 20.5%.

The aforementioned rebound in GDP was primarily attributed to robust growth in the Agriculture sector, which expanded by an estimated 6.3% year-over-year, while the Industry and Services sectors exhibited modest growth of 1.2% year-over-year. Agriculture sector benefitted from a low base, which was dragged by severe floods during 1HFY23, and up-trending food commodity prices during FY23. The weakness in Industry and Services was mainly due to elevated inflation, multi-decade high interest rates and fiscal tightening.

The CPI inflation experienced a notable decrease towards the end of the fiscal year. For FY24, the average headline inflation rate was 23.5%, a significant drop from the 29.2% average in the same period last year. Despite receding inflation, the SBP maintained the policy rate at 22% during first eleven months of FY24 and making the first policy rate cut in June 2024 by 150 bps to 20.5%. The decline in interest rate was already reflected in the secondary market yields of government papers during the period.

Pakistan's current account balance improved remarkably during the period. Despite the gradual removal of import restrictions under the IMF program, the current account deficit FY24 shrank to USD 681 million against USD 3.3 billion in the corresponding period last year. Imports of goods increased by 0.9% YoY during the period to USD 53.2 billion, while goods' exports grew by 11.5% YoY to USD 31.1 billion and remittances rose by 10.7% YoY to USD 30.3 billion. Pakistan would have posted a current account surplus for the period, had it not been for the considerable primary income debits of USD 1.5 billion and USD 1.2 billion in May and June, respectively, due to the settlement of the backlog of dividends from MNCs in Pakistan.

SBP's Forex reserves rose from a critical low level of USD 3.7 billion in May 2023 to USD 9.4 billion in June 2024. In addition to the rebuilding of the country's FX reserves and considerable improvement in the current account balance, a crackdown by the authorities on speculative and illegal activities in the forex market helped to arrest the widening of spread between the interbank and open-market exchange rates. The interbank PKR-USD exchange rate appreciated 2.7% from 285.99 by end-June 2023 to 278.34 by end-June 2024, with the lowest level recorded at 307.10 during the period.

As per FY25 Budget documents, Pakistan is estimated to have recorded a fiscal deficit of Rs. 7.8 trillion or 7.4% of GDP and a primary surplus of 0.4% of GDP in FY24 versus deficits of 7.7% and 0.8%, respectively, in FY23. Tax revenue collection witnessed an impressive jump by 30% YoY to Rs. 9.3 trillion. Non-tax revenues climbed up 79% YoY to Rs. 2.9 trillion, led by strong SBP profits and almost doubling of petroleum levy collection.

Money Market Review

Fiscal year 2024 ended with monetary easing whereby the central bank reduced the policy rate by 150 bps, taking it to 20.50%. The central bank MPC committee assessed that underlying pressures are also subsiding amidst tight monetary policy stance, supported by fiscal consolidation. In the fiscal year 2024, the yields of government securities dropped significantly in anticipation of rate cuts. T-bill yields went down by 190 to



Pure. Profit.



425 basis points, with the 3, 6, and 12-month T-bill closing at 19.97%, 19.91%, and 18.68% respectively. PIB yields were at 16.50% (3 Years), 15.37% (5 Years), and 14.09% (10 Years), showing a downward trend of 71 to 297 basis points. KIBOR rates also decreased by 267 to 405 basis points, with the 3-month, 6-month, and 12-month KIBOR rates at 20.24%, 20.14%, and 19.22% respectively.

On the liquidity front, the money market remained stable due to regular short-term Open Market Operations (OMO) from SBP, which ensured that the overnight rates remain close to the policy rate.

In the FX market, the rupee has depreciated during the ongoing fiscal year after having started off at Rs. 285.99/USD. The rupee made a low of Rs. 307.10 on September 5th in the interbank and finally closed at Rs. 278.34 at end of June 2024.

The table below summarizes the changes in fixed-income instrument yields and PKR versus USD during the year:

Description	30-Jun-23	30-Jun-24	Change (bps)
KIBOR 3 Months	22.91%	20.24%	-267
KIBOR 6 Months	22.97%	20.14%	-283
KIBOR 12 Months	23.27%	19.22%	-405
T-Bill 1 Month	22.36%	20.46%	-190
T-Bill 3 Months	22.65%	19.97%	-268
T-Bill 6 Months	22.87%	19.91%	-296
T-Bill 12 Months	22.93%	18.68%	-425
PIB 3 Year	19.47%	16.50%	-297
PIB 5 Year	16.08%	15.37%	-71
PIB 10 Year	15.32%	14.09%	-123
US\$ Inter Bank	285.99	278.34	-7.65
US\$ Open Market	290	280.07	-9.93

In the Shariah Compliant market, GoP Ijarah prices showed a mixed trend, whereby the prices of floating rate instruments increased while the fixed rate instruments declined due to the upward trend in interest rates during the review period. The central bank continued to conduct GOP Ijarah Sukuk auctions during the year and new assets were also added to tap excess liquidity from the market. During the period under review, the central bank borrowed a total of Rs. 1.9 trillion from Islamic participants. SBP raised Rs 457.70 billion through the auction of 3-year Ijarah while Rs. 593.97 billion were raised in the 1-year tenor and the maximum amount of Rs. 875 billion were raised in the 5-year tenor. The table below summarizes the details of Ijarah/Sukuk:



Pure. Profit.



Floating Rate Ijarah

Ijarah	Type	Coupon	Remaining Life	Next Reset	Issue Size (bn)	Issue Date	Maturity	Reval			Change(Rs)
								30-Jun-23	30-Jun-24	YTM	
XX	Floater - 5 years	20.07%	0.84	31-Oct-24	76.39	30-Apr-20	30-Apr-25	96.42	99.36	19.66%	2.94
XXI	Floater - 5 years	21.18%	0.92	29-Nov-24	74.62	29-May-20	29-May-25	99.36	99.75	20.32%	0.39
XXII	Floater - 5 years	19.83%	0.99	24-Dec-24	47.24	24-Jun-20	24-Jun-25	99.08	99.76	20.16%	0.68
XXIII	Floater - 5 years	18.99%	1.08	29-Jul-24	186.91	29-Jul-20	29-Jul-25	99.40	99.96	19.86%	0.56
XXIV	Floater - 5 years	20.76%	1.45	9-Dec-24	227.26	9-Dec-20	9-Dec-25	99.71	100.75	19.18%	1.04
XXV	Floater - 5 years	21.20%	2.27	6-Oct-24	190.53	6-Oct-21	6-Oct-26	99.44	100.47	19.60%	1.03
XXVI	Floater - 5 years	21.22%	2.34	29-Oct-24	584.86	29-Oct-21	29-Oct-26	99.26	101.03	19.58%	1.77
XXVII	Floater - 5 years	21.32%	2.83	27-Oct-24	563.32	27-Apr-22	27-Apr-27	99.39	100.69	19.49%	1.30
XXVIII	Floater - 5 years	21.32%	3.33	26-Oct-24	243.85	26-Oct-22	26-Oct-27	99.73	100.58	19.89%	0.85
XXIX	Floater - 3 years	19.69%	1.52	5-Jul-24	105.96	5-Jan-23	5-Jan-26	99.00	99.21	20.46%	0.21
XXXV	Floater - 5 years	20.88%	4.00	26-Dec-24	131.98	26-Jan-23	26-Jan-28	0.00	103.03	19.77%	0.00
XXXVI	Floater - 1 year	21.80%	0.04	12-Jul-24	0.00	12-Jul-23	12-Jul-24	0.00	100.09	17.67%	0.00
XXXVII	Floater - 3 years	20.53%	2.04	12-Jul-24	27.40	12-Jul-23	12-Jul-26	0.00	100.21	20.68%	0.00
XXXVIII	Floater - 1 year	21.24%	0.11	7-Aug-24	99.71	7-Aug-23	7-Aug-24	0.00	100.06	19.10%	0.00
XXXIX	Floater - 1 year	18.39%	0.23	20-Sep-24	5.79	20-Sep-23	20-Sep-24	0.00	99.96	17.69%	0.00
XL	Floater - 1 year	20.94%	0.28	9-Oct-24	37.55	9-Oct-23	9-Oct-24	0.00	100.29	18.99%	0.00
XLI	Floater - 1 year	19.86%	0.44	4-Dec-24	13.22	4-Dec-23	4-Dec-24	0.00	100.34	18.77%	0.00
XLII	Floater - 3 years	20.65%	2.44	4-Dec-24	81.69	4-Dec-23	4-Dec-26	0.00	99.82	20.10%	0.00
XLIII	Floater - 5 years	20.76%	4.44	4-Dec-24	99.97	4-Dec-23	4-Dec-28	0.00	100.16	19.87%	0.00
XLIV	Floater - 3 years	21.11%	2.58	24-Jul-24	16.17	24-Jan-24	24-Jan-27	0.00	100.50	19.89%	0.00
XLV	Floater - 5 years	21.24%	4.58	24-Jul-24	259.30	24-Jan-24	24-Jan-29	0.00	100.20	21.54%	0.00
XLVI	Floater - 3 years	21.35%	2.87	10-Nov-24	0.65	10-May-24	10-May-27	0.00	100.00	20.20%	0.00
XLVII	Floater - 5 years	21.63%	4.87	10-Nov-24	74.62	10-May-24	10-May-29	0.00	100.00	20.40%	0.00
XLVIII	Floater - 3 years	19.64%	3.00	28-Dec-24	5.08	28-Jun-24	28-Jun-27	0.00	100.00	19.64%	0.00
XLXIV	Floater - 5 years	19.63%	5.00	28-Dec-24	15.11	28-Jun-24	28-Jun-29	0.00	100.00	19.63%	0.00
PES I	Floater - 10 years	22.53%	4.68	1-Sep-24	200.00	1-Mar-19	1-Mar-29	106.80	106.80	18.76%	0.00
PES II	Floater - 10 years	21.17%	5.90	21-Nov-24	199.97	21-May-20	21-May-30	100.02	100.12	20.11%	0.10
		21.10%		Total	3569.13						

Fixed Rate Ijarah

Ijarah	Type	Coupon	Remaining Life	Next Coupon	Issue Size (bn)	Issue Date	Maturity	Reval			Change(Rs)
								30-Jun-23	30-Jun-24	YTM	
XXIII	Fixed - 5 years	8.37%	1.08	29-Jul-24	44.59	29-Jul-20	29-Jul-25	85.70	86.43	23.17%	0.73
XXIV	Fixed - 5 years	9.45%	1.56	20-Jul-24	8.25	20-Jan-21	20-Jan-26	88.00	84.42	21.72%	-3.58
XXV	Fixed - 5 years	9.70%	2.27	6-Oct-24	12.73	6-Oct-21	6-Oct-26	89.00	83.92	18.67%	-5.08
XXVI	Fixed - 5 years	11.40%	2.47	15-Dec-24	323.83	15-Dec-21	15-Dec-26	90.08	87.58	17.84%	-2.50
XXVII	Fixed - 5 years	12.49%	2.83	27-Oct-24	60.89	27-Apr-22	27-Apr-27	92.37	88.58	17.77%	-3.79
XXVIII	Fixed - 5 years	12.49%	3.39	16-Nov-24	0.25	16-Nov-22	16-Nov-27	97.37	88.33	17.16%	-9.04
XXIX	Fixed - 3 Years	18.24%	1.80	17-Oct-24	25.01	17-Apr-23	17-Apr-26	100.00	100.41	17.90%	0.41
XXXV	Fixed - 3 Years	18.49%	1.99	26-Dec-24	292.22	26-Jun-23	26-Jun-26	0.00	103.51	16.35%	0.00
XXXVI	Fixed - 1 Year	22.15%	0.04	12-Jul-24	0.00	12-Jul-23	12-Jul-24	0.00	100.05	18.91%	0.00
XXXVII	Fixed - 1 Year	22.00%	0.11	7-Aug-24	1.81	7-Aug-23	7-Aug-24	0.00	100.03	20.00%	0.00
XXXVIII	Fixed - 1 Year	22.95%	0.23	20-Sep-24	10.16	20-Sep-23	20-Sep-24	0.00	100.34	20.14%	0.00
XXXIX	Fixed - 5 Years	16.50%	4.23	20-Sep-24	0.50	20-Sep-23	20-Sep-28	0.00	101.65	15.92%	0.00
XL	Fixed - 1 Year	22.49%	0.28	9-Oct-24	111.25	9-Oct-23	9-Oct-24	0.00	100.66	19.08%	0.00
XLI	Fixed - 3 Years	16.19%	2.44	4-Dec-24	34.65	4-Dec-23	4-Dec-26	0.00	100.11	16.12%	0.00
XLII	Fixed - 5 Years	15.75%	4.44	4-Dec-24	52.85	4-Dec-23	4-Dec-28	0.00	101.33	15.32%	0.00
XLIII	Fixed - 1 Year	19.52%	0.45	N/A	36.07	11-Dec-23	9-Dec-24	0.00	92.58	17.84%	0.00
XLIV	Fixed - 1 Year	19.50%	0.57	N/A	6.42	24-Jan-24	22-Jan-25	0.00	90.05	19.39%	0.00
XLV	Fixed - 3 Years	16.05%	2.58	24-Jul-24	1.31	24-Jan-24	24-Jan-27	0.00	100.00	16.03%	0.00
XLVI	Fixed - 5 Years	15.49%	4.58	24-Jul-24	25.12	24-Jan-24	24-Jan-29	0.00	100.00	15.48%	0.00
XLVII	Fixed - 1 Year	20.10%	0.65	N/A	1.27	21-Feb-24	19-Feb-25	0.00	86.57	23.99%	0.00
XLVIII	Fixed - 1 Year	20.10%	0.71	N/A	13.49	15-Mar-24	14-Mar-25	0.00	88.30	18.67%	0.00
XLIX	Fixed - 1 Year	20.24%	0.75	N/A	15.95	29-Mar-24	28-Mar-25	0.00	88.00	18.23%	0.00
L	Fixed - 1 Year	20.24%	0.78	N/A	15.30	9-Apr-24	8-Apr-25	0.00	86.36	20.30%	0.00
LI	Fixed - 1 Year	20.00%	0.82	N/A	33.04	26-Apr-24	25-Apr-25	0.00	86.86	18.34%	0.00
LII	Fixed - 1 Year	20.20%	0.86	N/A	54.59	10-May-24	9-May-25	0.00	86.12	18.68%	0.00
LIII	Fixed - 3 Years	15.85%	2.87	10-Nov-24	0.08	10-May-24	10-May-27	0.00	100.00	15.82%	0.00
LIV	Fixed - 5 Years	15.48%	2.87	10-Nov-24	45.13	10-May-24	10-May-27	0.00	100.00	15.45%	0.00
LV	Fixed - 1 Year	19.89%	0.90	N/A	48.33	24-May-24	23-May-25	0.00	85.69	18.53%	0.00
LVI	Fixed - 1 Year	18.50%	1.00	N/A	21.22	28-Jun-24	27-Jun-25	0.00	84.42	18.50%	0.00
LVII	Fixed - 3 Years	15.80%	3.00	28-Dec-24	0.12	28-Jun-24	28-Jun-27	0.00	100.00	15.80%	0.00
LVIII	Fixed - 5 Years	15.10%	5.00	28-Dec-24	0.08	28-Jun-24	28-Jun-29	0.00	100.00	15.10%	0.00
				Total	1297.20						

Source: SBP/PSX and MUFAP

The corporate sector continued facing challenges in raising money through long-tenor Sukuk; however, an increase in the issuance of shorter-tenor instruments was witnessed during the year.

During the period under review, it is also encouraging to note that some new blue-chip corporates from the sugar, telecommunication, communication and power sectors have explored financing through the Shariah-compliant debt market. Corporates mainly targeted the short-term instruments for the working capital requirements at relatively better spreads compared to conventional alternatives like TFCs and bank loans.



Pure. Profit.



On the other hand, a consistent increase in the issuance of new Sukuk (both government and corporate) have aided the Islamic mutual funds in offering attractive returns to investors along with managing their liquidity effectively.

Equity Review

During FY24, the equity market witnessed its most robust rally since 2016, as the KMI-30 index surged by 78.7% to close at 126,424 points. Similarly, the KSE-100 index also rose by 89.0% during the period, closing at 78,445 points. The impressive rally was primarily driven by the commencement of a new IMF program at the end of June 2023 (a nine-month Stand-By Arrangement (SBA) of USD 3 billion until April 2024), which played a crucial role in macroeconomic stabilization and helped avert a severe balance-of-payment crisis.

During the period, the market rally was supported by the growing expectations of commencement of interest rate cuts since the inflation had peaked out. However, the SBP maintained the status quo for most of the year, while the first policy rate cut was announced in the June MPS, of 150bps, taking the policy rate from 22% to 20.5%. The rate cut was backed by considerable disinflation until June 2024 and marked improvement in the current account balance.

An important development during this period was the general elections which were held on February 8, 2024. The formation of a new PML-N-led government had a positive impact on the market, due to their track record of focusing on development activities. This renewed investor confidence was evident in the increased market activity, with KSE 100 Index volumes rising 2.4 times to an average daily volume of 461 million shares, compared to 192 million shares in the same period last year.

International agencies improved credit rating of Pakistan during the period as a part of positive spillovers of the IMF programs. The International credit rating agency Fitch upgraded Pakistan to 'CCC' in July 2023. This was reaffirmed in December 2023.

Corporate earnings remained robust despite challenging economic conditions; largely supported by substantial contributions from Fertilizer and Banking sectors where earnings improved by over 50%, with overall 9MFY24 profits rising by an aggregate 29% across the board. This strength in profitability was endorsed by rise in foreign equity holdings in Pakistan through Special Convertible Rupee Accounts (SCRA) rose from USD 1.0 billion in FY23 to USD 1.8 billion in FY24. This significant growth is mainly attributed to currency appreciation, rising stock prices, and increased share purchases by foreign investors.

On the global front, the US Federal Reserve kept the interest rate at a 22-years high of 5.25%-5.50% until the June 2024 meeting, having held rates for the seventh consecutive meetings since July 2023. The US market is now expecting only one rate cut through 2024 as the Fed is looking for more reassuring data on inflation before commencing monetary easing. Many global indices reached their all-time high levels during the 12 months period. The S&P 500 index rose 23% during the period, while the MSCI Emerging market index rose 10%.

Major contributors to the Index:

Among the key sectors, Auto Parts and Accessories, Cable and Electric Goods, Power Generation & Distribution and Commercial Banks were the best-performing sectors. The top contributing stocks in the KMI-30 index during the year were:

Major Positive Contributors to the Index	Contribution to KMI-30 (Points)	Total Return (%)
Hub Power Co Ltd	9,839	143.69
Meezan Bank Ltd	7,833	219.13
Engro Fertilizers Ltd	6,360	147.60
Lucky Cement Ltd	4,191	79.61


On the flip side, Chemicals, Transport and Technology sectors were amongst the key worst-performing sectors. The key laggards in the KMI-30 index during the year were:

Major Negative Contributors to the Index	Contribution to KMI-30 (Points)	Total Return (%)
Colgate Palmolive	-978	-24.95
Lotte Chemical Pakistan Ltd	-224	-30.68
TPL Properties Ltd	-91	-29.86

Equity Flows

The record-breaking rise in PSX was supported largely by strong foreign inflows amounting to USD152mn in FY24. The flows concentrated in Commercial Banks (USD62mn), Cements (USD15mn) and Fertilizer sector (15mn), Local investors largely remained net sellers during the period, however, support to the rally was witnessed with strong contributions to inflows coming from Insurance Companies (USD126mn) and Corporates (USD36mn). Main sellers amongst domestic investors were Bank & DFIs (USD 141mn), Individuals (USD60mn) and Mutual Funds (USD47mn). Continued redemptions in Mutual Funds and liquidations of equity books by Banks continued to be the main source of supply in the market.

The following graph shows the movement of the KMI-30 during the year along with key driving factors:





Pure. Profit.



Mutual Fund Industry Review

During the FY24, the AUMs of the mutual fund industry increased by 65% to Rs. 2,653 billion. Shariah Compliant AUMs grew by 78% to Rs. 1,320 billion, which brought the share of Shariah Compliant funds to 50% in the overall mutual fund industry. Al Meezan’s market share in the Mutual Funds industry stood at 19% while amongst the Shariah Compliant Funds, it stands at 38%, the highest in the industry by the end of June 2024. In the Pension Fund category, Meezan Tahaffuz Pension Fund’s market share stood at 33% while amongst the Shariah Compliant Funds, it stands at 51%, the highest in the industry by the end of June 2024.

The change in AUMs of industry in FY24 over FY23 is as under:


	FY23	FY24	Change
	(Rs. In Billion)		(%)
<u>Sovereign, Money Market and Income Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	648	1,173	81.2
Conventional Funds	775	1,151	48.5
Total Funds	1,423	2,324	63.4
<u>Equity Funds (Including Index Tracker Funds)</u>			
Shariah Compliant Funds	47	70	50.0
Conventional Funds	88	143	63.1
Total Funds	134	213	58.6
<u>Capital Protected, balanced, and asset allocation Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	15	26	69.0
Conventional Funds	9	13	36.5
Total Funds	25	39	56.9
<u>Commodity Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	1	2	27.7
Total Funds	1	2	27.7
<u>Voluntary Pension Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	32	49	50.9
Conventional Funds	17	26	49.3
Total Funds	50	75	50.3
Total Industry	1,633	2,653	62.5




Pure. Profit.



Al Meezan's Market Share in the Industry



Meezan Tahaffuz Pension Fund Market Share in the Industry





Pure. Profit.



Performance Review (Funds)

The table below depicts a summary of FY24 performance of funds under our management:

Funds	Type	Net Assets Rs. in millions	Growth in Net Assets for FY24 (%)	Returns for FY24 (%)	Benchmark for FY24 (%)	
Money Market/Fixed Income Funds						
Meezan Rozana Amdani Fund (MRAF)	Money Market	114,606	19	21.50	10.28	
Meezan Cash Fund (MCF)	Money Market	71,892	178	21.22	10.28	
Meezan Daily Income Fund (MDIP-1)	Income	146,252	60	21.78	10.10	
Meezan Daily Income Fund - MMMP	Income	8,656	56	20.00	10.10	
Meezan Sehl Account Plan (MDIF-SEHL)	Income	90	2,089	20.21	10.10	
Meezan Munafa Plan-I (MDIF-MMP-I)*	Income	2,742	-	21.71	10.37	
Meezan Super Saver Plan (MDIF-SSP)*	Income	912	-	18.86	11.04	
Meezan Sovereign Fund (MSF)	Income	58,055	614	21.89	18.95	
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan-V*	Open End Islamic CIS as per SECP's Circular No.3 of 2022	8,649	-	20.89	9.18	
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan-VII		865	-	21.63	7.52	
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan-VIII*		1,700	-	20.29	11.08	
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan-IX		813	-	20.21	11.08	
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan-X		2,846	-	22.09	10.18	
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan-XI		5,981	-	20.25	11.20	
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan-XII		807	-	24.61	10.46	
Meezan Islamic Income Fund (MIIF)		Income	15,980	39	20.94	10.10
Equity Funds						
Meezan Islamic Fund (MIF)	Equity	23,095	35	73.00	78.70	
Al Meezan Mutual Fund (AMMF)	Equity	4,874	55	74.84	78.70	
KSE Meezan Index Fund (KMIF)	Equity	3,973	54	75.02	78.70	
Meezan Dedicated Equity Fund (MDEF)	Equity	385	-5	74.90	78.70	
Meezan Energy Fund (MEF)	Equity	1,136	151	86.79	78.70	
Pension Fund Scheme						
Meezan Tahaffuz Pension Fund	Pension Fund Scheme					
Equity sub Fund		5,267	52	77.07		
Debt sub Fund		6,846	30	20.78		
Money Market sub Fund		12,046	50	22.06		
Gold Sub Fund		471	13	5.36		
Meezan GOKP Pension Fund						
Money Market sub Fund*	GOKP Pension Fund	110	-	21.95		
Balanced Fund						
Meezan Balanced Fund (MBF)	Balanced	1,913	13	43.38	38.19	
Asset Allocation Fund						
Meezan Asset Allocation Fund (MAAF)	Asset Allocation	312	-31	60.44	64.39	
Commodity Fund						
Meezan Gold Fund (MGF)	Commodity	1,719	28	5.38	3.09	
Exchange Traded						
Meezan Pakistan Exchange Traded Fund (MZNP-ETF)	Exchange Traded	97	40	85.78	93.94	
Fund of Funds						
Meezan Financial Planning Fund of Funds						
Aggressive	Fund of Funds	88	37	55.25	60.30	
Moderate		69	11	45.89	46.31	
Conservative		49	-17	32.52	30.91	
Very Conservative Allocation Plan (MPFP-V. Con)*		1	-	19.42	15.60	
MAAP-I		93	31	49.92	45.45	
Meezan Strategic Allocation Fund						
MSAP-I		94	-50	48.52	44.10	
MSAP-II		42	-74	49.26	43.70	
MSAP-III		101	-23	48.55	44.25	
MSAP-IV		67	-13	48.28	44.12	
MSAP-V		42	24	46.72	42.10	
Meezan Strategic Allocation Fund - II						
MSAP-II - MCPP-IV		281	19	34.31	30.54	
Meezan Strategic Allocation Fund - III						
MSAP-II - MCPP-IX	234	-1	34.49	30.56		

* Launched MDIF-MMP-1 (Aug 29'23), MDIF-SSP (Apr 26'24), MPMP-V (Jan 30'24), MPMP-VII (Jul 11'23), MPMP-VIII (Apr 01'24), MPMP-IX (Apr 08'24), MPMP-X (Apr 25'24), MPMP-XII (May 23'24), MGOKPPF - MMKT (Dec 14'23), MPFP-V. CON (Aug 22'23)



Pure. Profit.



Performance Review (Funds)

Meezan Rozana Amdani Fund

The net assets of Meezan Rozana Amdani Fund (MRAF) at June 30, 2024 were Rs. 114,606 million compared to Rs. 96,006 million at June 30, 2023, an increase of 19%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2024 was Rs. 50.00. During the year the fund provided an annualized return of 21.50% as compared to the benchmark annualized return of 10.28%. At year end, 30% of the fund was placed in Term Deposit Receipts, 24% in GoP Ijarah / Govt. Guaranteed Sukuks, 10% in Islamic Corporate Sukuks, 2% in Bai Muajjal placement and 32% of the total assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 2% in Others.

Meezan Cash Fund

The net assets of Meezan Cash Fund (MCF) at June 30, 2024 were Rs. 71,892 million compared to Rs. 25,882 million at June 30, 2023, an increase of 178%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2024 was Rs. 51.2750. During the year the fund provided an annualized return of 21.22% as compared to the benchmark annualized return of 10.28%. At year end, 11% of the fund was placed in Islamic Corporate Sukuks, 15% of the fund was placed in Term Deposit Receipts and 59% of the total assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 15% in Others.

Meezan Islamic Income Fund

The net assets of Meezan Islamic Income Fund (MIIF) at June 30, 2024 were Rs. 15,980 million compared to Rs. 11,474 million at June 30, 2023, an increase of 39%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 51.9209. During the year the fund provided an annualized return of 20.94% compared to the benchmark annualized return of 10.10%. At year end, the fund was 11% invested in Islamic Corporate Sukuks, 55% in GoP Ijarah / Govt. Guaranteed Sukuks and 27% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 7% in Others.

Meezan Sovereign Fund

The net assets of Meezan Sovereign Fund (MSF) at June 30, 2024 were Rs. 58,055 million compared to Rs. 8,133 million at June 30, 2023, an increase of 614%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2024 was Rs. 52.3857. During the year the fund provided an annualized return of 21.89% compared to the benchmark annualized return of 18.95%. At Year end, the fund was 60% invested in GoP Ijarah/Govt. Guaranteed Sukuks, and 24% of the assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 16% in Others.

Meezan Daily Income Fund

Meezan Daily Income Fund – MDIP – I

The net assets of the plan at June 30, 2024 were Rs. 146,252 million compared to Rs. 91,147 million at June 30, 2023, an increase of 60%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2024 was Rs. 50.00. During the year, the plan provided an annualized return of 21.78% as compared to the benchmark annualized return of 10.10%. At year end, 14% of the fund was placed in Term Deposit Receipts, 7% in Islamic Corporate Sukuks, 42% in GoP Ijarah / Govt. Guaranteed Sukuks, 34% of the total assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 3% in Others.

Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan)

The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 8,656 million compared to Rs. 5,543 million at June 30, 2023, an increase of 56%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.00. During the year, the plan provided an annualized return of 20.00% as compared to the benchmark annualized return of 10.10%. At year end, 22% of the fund was placed in DIFs., 76% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 2% in Others.



Pure. Profit.



Meezan Daily Income Fund (Meezan Munafa Plan)

Meezan Munafa Plan was launched on August 29, 2023. The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 2,742 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.2342. During the period, the plan provided an annualized return of 21.71% as compared to the benchmark annualized return of 10.37%. At the year, the fund was 32% invested in GoP Ijarah / Govt. Guaranteed Sukuks, 44% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 24% in Others.

Meezan Sehl Account Plan - MDIF-SEHL

The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 90 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.3746. During the year the plan provided an annualized return of 20.21% as compared to the benchmark annualized return of 10.10%. At year end, 99% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 1% in Others.

Meezan Super Saver Plan MDIF-SSP

The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 912 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.2339. During the year the plan provided an annualized return of 18.86% as compared to the benchmark annualized return of 11.04%. At year end, 85% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 15% in Others.

Meezan Fixed Term Fund

Meezan Paaidaar Munafa Plan - V

Meezan Paaidaar Munafa Plan - V was re-launched on January 30, 2024. The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 8,649 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.00. During the period, the plan provided an annualized return of 20.89% as compared to the benchmark annualized return of 9.18%. At period end, the plan was 90% was placed in Term Deposit Receipts and 10% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks.

Meezan Paaidaar Munafa Plan - VII

Meezan Paaidaar Munafa Plan - VII was launched on July 11, 2023. The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 865 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.4990. During the period, the plan provided an annualized return of 21.63% as compared to the benchmark annualized return of 7.52%. At year end, the plan was 85% was placed in Corporate Sukuks, 10% of the assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 5% in Others.

Meezan Paaidaar Munafa Plan - VIII

Meezan Paaidaar Munafa Plan - VIII was re-launched on April 01, 2024. The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 1,700 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.0463. During the period, the plan provided an annualized return of 20.29% as compared to the benchmark annualized return of 11.08%. At year end, the plan was 93% was placed in Corporate Sukuks, 7% of the assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and Others.

Meezan Paaidaar Munafa Plan -IX

Meezan Paaidaar Munafa Plan - IX was launched on April 08, 2024. The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 813 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.00. During the period, the plan provided an annualized return of 20.21% as compared to the benchmark annualized return of 11.08%. At year end, the plan was 94% was placed in Corporate Sukuks, 6% of the assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and Others.

Meezan Paaidaar Munafa Plan -X

Meezan Paaidaar Munafa Plan - X was launched on April 25, 2024. The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 2,846 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs.



Pure. Profit.



50.00. During the period, the plan provided an annualized return of 22.09% as compared to the benchmark annualized return of 10.18%. At year end, the plan was 99% was placed in Corporate Sukuks, 1% of the assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and Others.

Meezan Paaidaar Munafa Plan -XI

Meezan Paaidaar Munafa Plan – XI was launched on June 03, 2024. The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 5,981 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.00. During the period, the plan provided an annualized return of 20.25% as compared to the benchmark annualized return of 11.20%. At year end, the plan was 98% was placed in Corporate Sukuks, 2% of the assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and Others.

Meezan Paaidaar Munafa Plan -XII

Meezan Paaidaar Munafa Plan – XII was launched on May 23, 2024. The net assets of the plan as at June 30, 2024 stood at Rs. 807 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.00. During the period, the plan provided an annualized return of 24.61% as compared to the benchmark annualized return of 10.46%. At year end, the plan was 98% was placed in Corporate Sukuks, 2% of the assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and Others.

Meezan Islamic Fund

The net assets of Meezan Islamic Fund (MIF) as at June 30, 2024 stood at Rs. 23,095 million compared to Rs. 17,155 million at the end of June 30, 2023, an increase of 35%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 81.6663. During the year the fund provided an annualized return of 73.00% compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 78.70%.

Al Meezan Mutual Fund

The net assets of Al Meezan Mutual Fund (AMMF) as at June 30, 2024 were Rs. 4,874 million compared to Rs. 3,153 million at the end of June 30, 2023, an increase of 55%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 24.4013. During the year the fund provided a return of 74.84% compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 78.70%.

KSE Meezan Index Fund

The net assets of KSE Meezan Index Fund (KMIF) as at June 30, 2024 were Rs. 3,973 million compared to Rs. 2,585 million at June 30, 2023, an increase of 54%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2024 was Rs. 101.5393. During the year the fund provided an annualized return of 75.02% compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 78.70%.

Meezan Dedicated Equity Fund

The net assets of Meezan Dedicated Equity Fund (MDEF) as at June 30, 2024 were Rs. 385 million compared to Rs. 406 million at June 30, 2023, a decrease of 5%. The net asset value per unit (NAV) at June 30, 2024 was Rs. 67.6969 along with a return of 74.90% during the year compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 78.70%.

Meezan Energy Fund

The net assets of Meezan Energy Fund (MEF) as at June 30, 2024 were Rs. 1,136 million compared to Rs. 452 million in June 2023, an increase of 151%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 34.1048. During the year the fund provided an annualized return of 86.79% compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 78.70%.

Meezan Tahaffuz Pension Fund (MTPF)

MTPF comprises of four sub-funds, namely Equity sub-fund, Debt sub-fund, Money Market sub-fund and Gold sub-fund. For the year ended June 30, 2024, the equity sub-fund provided a return of 77.07% and gold sub-



fund provided a return of 5.36%, while the debt and money market sub-funds provided annualized returns of 20.78% and 22.06% respectively. Performance review for each sub fund is given as under:

Equity Sub Fund

The net assets of this sub fund stood at Rs. 5,267 million at June 30, 2024 compared to Rs. 3,458 million at June 30, 2023, an increase of 52%. The net asset value (NAV) per unit of the plan was Rs. 861.5410 at the end of June 30, 2024.

Debt Sub Fund

The net assets of this sub fund stood at Rs. 6,846 million at June 30, 2024 compared to Rs. 5,252 million at June 30, 2023, an increase of 30%. The net asset value per (NAV) unit of the plan was Rs. 421.1214 at the end of June 30, 2024.

Money Market Sub Fund

The net assets of this sub fund stood at Rs. 12,046 million at June 30, 2024 compared to Rs. 8,031 million at June 30, 2023, an increase of 50%. The net asset value (NAV) per unit of the plan was Rs. 414.6721 at the end of June 30, 2024.

Gold Sub Fund

The net assets of this sub fund stood at Rs. 471 million at June 30, 2024 compared to Rs. 416 million at June 30, 2023, an increase of 13%. The net asset value (NAV) per unit of the plan was Rs. 308.3108 at the end of June 30, 2024.

Meezan GOKP Pension Fund (MGOKPPF)

MGOKPPF was launched sub-fund on December 14, 2023, namely Money Market sub-fund. The net assets of this sub fund stood at Rs. 110 million at June 30, 2024. The net asset value (NAV) per unit of the plan was Rs. 111.9656 at the end of June 30, 2024. During the period, the plan provided annualized returns of 21.95%.

Meezan Balanced Fund

The net assets of Meezan Balanced Fund (MBF) as at June 30, 2024 were Rs. 1,913 million compared to Rs. 1,689 million at June 30, 2023, an increase of 13%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 18.3552. During the year the fund provided an annualized return of 43.38% as compared to the benchmark return of 38.19%.

Meezan Asset Allocation Fund

The net assets of Meezan Asset Allocation Fund (MAAF) as at June 30, 2024 were Rs. 312 million compared to Rs. 454 million at June 30, 2023, a decrease of 31%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 60.7038. During the year the fund provided an annualized return of 60.44% as compared to the benchmark return of 64.39%.

Meezan Gold Fund

The net assets of the fund as at June 30, 2024 were 1,719 million compared to Rs. 1,346 million at June 30, 2023, an increase of 28%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2024 was Rs. 163.9226. During the year the fund provided an annualized return of 5.38% as compared to the benchmark return of 3.09%.

Meezan Pakistan Exchange Traded Fund

The net assets of Meezan Pakistan Exchange Traded Fund (MPETF) as at June 30, 2024 were Rs. 97 million compared to Rs. 69 million in June 2023, an increase of 40%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 13.5213 per unit. During the year the fund provided an annualized return of 85.78% as compared to the benchmark return of MZNPI of 93.94%.



Pure. Profit.



Meezan Financial Planning Fund of Funds

Aggressive Allocation Plan

The net assets of the plan were Rs. 88 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 64 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 102.6068 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 55.25% as compared to the benchmark return of 60.30%.

Moderate Allocation Plan

The net assets of the plan were Rs. 69 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 62 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 93.6467 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 45.89% as compared to the benchmark return of 46.31%.

Conservative Allocation Plan

The net assets of the plan were Rs. 49 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 59 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 91.5529 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 32.52% as compared to the benchmark return of 30.91%.

Very Conservative Allocation Plan

The plan was launched on August 18, 2023. The net assets of the plan as at June 30, 2024 were Rs. 1.1 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 50.3218 per unit. During the period the plan provided an annualized return of 19.42% as compared to the benchmark return of 15.60%.

Meezan Asset Allocation Plan-I

The net assets of the plan were Rs. 93 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 71 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 83.2857 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 49.92% as compared to the benchmark return of 45.45%.

Meezan Strategic Allocation Fund

Meezan Strategic Allocation Plan-I

The net assets of the plan were Rs. 94 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 188 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 56.1418 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 48.52% as compared to the benchmark return of 44.10%.

Meezan Strategic Allocation Plan-II

The net assets of the plan were Rs. 42 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 160 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 48.3710 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 49.26% as compared to the benchmark return of 43.70%.

Meezan Strategic Allocation Plan-III

The net assets of the plan were Rs. 101 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 131 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 54.0863 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 48.55% as compared to the benchmark return of 44.25%.



Pure. Profit.



Meezan Strategic Allocation Plan-IV

The net assets of the plan were Rs. 67 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 77 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 57.3736 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 48.28% as compared to the benchmark return of 44.12%.

Meezan Strategic Allocation Plan-V

The net assets of the plan were Rs. 42 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 34 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 64.6938 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 46.72% as compared to the benchmark return of 42.10%.

Meezan Strategic Allocation Fund -II

Meezan Capital Preservation Plan-IV

The net assets of the plan were Rs. 281 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 237 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 68.7731 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 34.31% as compared to the benchmark return of 30.54%.

Meezan Strategic Allocation Fund -III

Meezan Capital Preservation Plan-IX

The net assets of the plan were Rs. 234 million as at June 30, 2024 as compared to Rs. 237 million at June 30, 2023. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2024 was Rs. 72.8706 per unit. During the year the plan provided an annualized return of 34.49% as compared to the benchmark return of 30.56%.

Outlook

In spite of outstanding performance in FY24 the outlook of Pakistan stock market remains highly promising due to new long-term IMF program, receding inflation, onset of monetary easing cycle and attractive valuation.

In a latest development, the International Monetary Fund (IMF) and Pakistani authorities have reached a staff level agreement for Extended Fund Facility Arrangement (EFF) of USD 7bn. This notable achievement follows several stabilization measures implemented by the government. The new EFF program is a significant and positive development, bolstering the long-term outlook for Pakistan's external sector. The program is crucial for unlocking foreign inflows from other multilateral and bilateral institutions, enhancing the country's foreign exchange reserves and alleviating pressure on the external front.

Additionally, CPI inflation has been on downward trajectory from its recent peak. The inflation for June 2024 recorded at 12.6% which is expected to continue its decline in the coming months. The average inflation for FY25 is projected to be in a range of 10% to 12%, suggesting a compelling argument for further policy rate cuts that will bode well for the stock market.

Moreover, the valuations continue to remain very attractive, by historical averages, with the market trading at a forward P/E ratio of around 4x compared to its long-term average P/E of about 8.0x with dividend yield of 12%, while selected blue chips are offering dividend yield in excess of 15%.

On the fixed-income side, Sukuk issuances are projected to increase as the government is dedicated to boosting the proportion of Islamic sources of finance. In line with this, the Ministry of Finance recently introduced assets worth Rs. 900 billion to obtain fresh financing. Additionally, after a 3-year pause, the State



Pure. Profit.



Bank of Pakistan (SBP) has also begun conducting Bai-Muajjal transactions with Islamic Banks and Windows to enhance the overall share of Islamic financing. This provides an opportunity to deposit funds for a longer period in declining interest rate environment and improving liquidity management. With subdued inflationary pressures, we anticipate a gradual decline in the policy rate in FY25. Fixed Income funds are well positioned to absorb any changes in the policy rate, with optimal exposure to medium-term instruments featuring a six-month resetting mechanism. Moreover, we anticipate an enhancement in spreads offered on corporate instruments due to the reduction in KIBOR.

Auditors

S. No	Fund Name	Name of auditors as of June 30, 2024	Status of appointment for the year ending June 30, 2025
1.	Al Meezan Mutual Fund	M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants	M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants have been approved by the Board on recommendation of Board Audit Committee to be the auditors of the Funds.
2.	KSE Meezan Index Fund		
3.	Meezan Asset Allocation Fund		
4.	Meezan Balanced Fund		
5.	Meezan Cash Fund		
6.	Meezan Daily Income Fund		
7.	Meezan Dedicated Equity Fund		
8.	Meezan Energy Fund		
9.	Meezan Islamic Fund		
10.	Meezan Islamic Income Fund		
11.	Meezan Pakistan Exchange Traded Fund		
12.	Meezan Rozana Amdani Fund		
13.	Meezan Sovereign Fund		
14.	Meezan Strategic Allocation Fund	M/s Yousuf Adil & Co., Chartered Accountants	M/s Yousuf Adil & Co., Chartered Accountants have been approved by the Board on the recommendation of Board Audit Committee to be the auditors of the Funds.
15.	Meezan Strategic Allocation Fund-II		
16.	Meezan Strategic Allocation Fund-III		
17.	Meezan Financial Planning Fund of Funds		
18.	Meezan Fixed Term Fund		
19.	Meezan Gold Fund		
20.	Meezan Tahaffuz Pension Fund		
21.	Meezan GOKP Pension Fund		

Board Meetings

Details of Board Meetings and attendance therein is given in the notes to the financial statements of the Funds.

Names of the Directors who at any time served during the Financial Year

Name of Directors	Name of Directors
Mr. Ariful Islam*	Mr. Irfan Siddiqui
Mr. Saad Ur Rahman Khan	Syed Amir Ali
Muhammad Abdullah Ahmed*	Mr. Moin M. Fudda***
Mr. Feroz Rizvi	Mr. Furquan Kidwai



Pure. Profit.



Mr. Naeem Sattar*	Ms. Danish Zuberi
Mr. Ahmed Iqbal Rajani	Ms. Shazia Khurram
Mr. Tariq Mairaj	Mr. Mohammad Shoaib, CFA**

* Mr. Ariful Islam, Mr. Muhammad Abdullah Ahmed and Mr. Naeem retired from the Board on December 31, 2023.

** Mr. Mohammad Shoaib resigned as the CEO on February 29, 2024.

*** Mr. Moin Fudda resigned from the Board on March 14, 2024.

Election of Directors

Extraordinary General Meeting (EOGM) for convening Election of Directors was held on December 26, 2023. Ten (10) Directors, including the Chief Executive Officer commenced the term of three (3) years with effect from January 01, 2024.

Appointment of CEO

Mr. Imtiaz Gadar has been appointed as the Chief Executive Officer of Al Meezan Investment Management Limited. Mr. Imtiaz assumed office as the CEO on August 01, 2024.

Composition of the Board

In line with the requirements of the CCG, the Company encourages the representation of Independent and Non-Executive Directors as well as gender diversity. The Board of Al Meezan is comprised of 10 members with gender bifurcation of 8 Male and 2 Female Directors. The current composition of the Board and its Committees is as follows:

Non-Executive Directors	Mr. Irfan Siddiqui – Chairman
	Mr. Saad Ur Rahman Khan
	Syed Amir Ali
	Mr. Tariq Mairaj
	Mr. Ahmed Iqbal Rajani
	Ms. Shazia Khurram
Independent Directors	Mr. Feroz Rizvi
	Mr. Furquan Kidwai
	Ms. Danish Zuberi
Executive Director*	Mr. Imtiaz Gadar – Chief Executive Officer

* Appointed on August 01, 2024

Board Committees	Members/Chairman
Board Audit Committee	1. Mr. Feroz Rizvi – Chairman 2. Mr. Ahmed Iqbal Rajani – Member 3. Mr. Tariq Mairaj – Member
Board Risk Management Committee	1. Mr. Saad Ur Rahman Khan – Chairman 2. Mr. Furquan R Kidwai – Member 3. Ms. Shazia Khurram – Member



Pure. Profit.



Board Human Resources & Remuneration Committee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Irfan Siddiqui – Chairman 2. Mr. Saad Ur Rahman Khan – Member 3. Mr. Mr. Furquan R Kidwai – Member 4. Mr. Imtiaz Gadar - Member
Board IT Committee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Furquan Kidwai – Chairman 2. Mr. Imtiaz Gadar - Member 3. Mr. Faiz Ur Rehman, Subject Matter Expert

Board Evaluation

The Board of Directors and its Committees are comprised of qualified professionals with diversified experience who oversees the organizational activities. The Board and its Committees are abreast with the contemporary governance role and set strategic tone for the business model, overall objectives, approach to risk taking and the limits of organizational conduct.

The Board of Directors and its Committees diligently periodically conduct self-assessment of their performance. Accordingly, a Comprehensive Board Evaluation Questionnaire is approved by the Board and its Committees annually. Following the submission of self-assessment questionnaire, the Board and its Committees evaluation report is compiled and necessary actions are put into effect in consultation with the Chairman of the Board and of its Committees.

Directors’ Remuneration

The Company has a formal and transparent procedure for remuneration of directors in accordance with the Articles of Association of the Company and the Companies Act, 2017. The level of remuneration is appropriate and commensurate with market practice and the level of responsibility and expertise offered by the members of the Board and its Committees. Remuneration of Board members and its Committees is recommended by the Board and approved by shareholders in the General Meeting. The Chief Executive Officer of the Company, being an Executive Director, is not entitled to any remuneration for attending any Board Meeting or a meeting of Board Committees. Further, the Company does not pay any remuneration to Non-Executive including the Independent Directors except fee for attending the meetings.

Acknowledgement

We take this opportunity to thank our valued investors for reposing their faith in Al Meezan Investments, the largest asset management company in Pakistan. We also thank the regulator, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and our Trustee, the Central Depository Company of Pakistan, for their support. Likewise, we would like to thank the members of the Shariah Supervisory Board of Meezan Bank for their continued assistance and support on Shariah aspects of fund management.

Imtiaz Gadar
Chief Executive Officer

Director

Date: August 19, 2024



ڈائریکٹرز رپورٹ میجمنٹ کمپنی کے زیر انتظام فنڈز

المیزان انویسٹمنٹ میجمنٹ لمیٹڈ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے درج ذیل اوپن اینڈ فنڈز اور والنٹری پنشن اسکیم کے مالیاتی گوشوارے پیش کرتے ہوئے اظہار مسرت کرتا ہے۔

منی مارکیٹ فنڈ

میزان روزانہ آمدنی فنڈ
میزان کیش فنڈ

انکم فنڈز

میزان اسلامک انکم فنڈ
میزان سوورن فنڈ
میزان ڈیلی انکم فنڈ

ایس ای سی پی کے 2022 کے سرکلر نمبر 3 کے مطابق شریعہ موافق فکسڈ ریٹ / ریٹرن یا اوپن اینڈ CIS
میزان فکسڈ ٹرم فنڈ

ایکویٹی فنڈز

میزان اسلامک فنڈ
المیزان میوچل فنڈ
کے ایس ای میزان انڈیکس فنڈ
میزان ڈیڈ ویلٹی ایکویٹی فنڈ
میزان انرجی فنڈ

پنشن فنڈ

میزان تحفظ پنشن فنڈ
میزان GOKP پنشن فنڈ

بیلنسڈ فنڈ

میزان بیلنسڈ فنڈ

ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ

میزان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ

کموڈٹی فنڈ

میزان گولڈ فنڈ

ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ

میزان پاکستان ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ

فنڈ آف فنڈز

میزان فنانشل پلاننگ فنڈ آف فنڈز
میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن فنڈ
میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن فنڈ II
میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن فنڈ III

اقتصادی جائزہ

پاکستان کی معیشت میں مالی سال 2024 کے دوران مضبوط بنیادوں پر بحالی دیکھی گئی، جس دوران جی ڈی پی کی شرح نمو 2.4 فیصد رہی، جو مالی سال 2023 میں ہونے والی 0.20 فیصد کمی کے مقابلے میں نمایاں بہتری ہے۔ معیشت 1990 کی دہائی کے بعد ادائیگیوں کے توازن کے سب سے شدید بحران سے نکلنے میں کامیاب ہوئی، جس کی بنیادی وجہ آئی ایم ایف کا 3 بلین امریکی ڈالر مالیت کا قلیل مدتی اسٹینڈ بائی آرٹیکل (SBA) پروگرام تھا، جو جولائی 2023 سے مارچ 2024 تک جاری رہا۔ اس عرصے کے دوران مہنگائی میں نمایاں طور پر کمی آئی، جہاں مئی 2023 میں افراط زر کی شرح 38.4 فی صد کی حالیہ بلند ترین سطح سے کم ہو کر جون 2024 میں 12.4 فی صد رہ گئی۔ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق، دیگر اہم اقتصادی اشاریوں جیسے کہ زرمبادلہ کے ذخائر، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، اور پرائمری بیلنس میں بھی اس عرصے کے دوران نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ اس عرصے کے دوران بینک دولت پاکستان (SBP) نے 2021 کے بعد پہلی بار جون 2024 میں شرح سود میں 150 بیس پوائنٹس کمی کی، جس سے پالیسی ریٹ 20.5 فی صد پر آ گیا۔

جی ڈی پی میں مذکورہ بحالی کی بنیادی وجہ زراعت کے شعبے میں مضبوط ترقی تھی، جو سال بہ سال تقریباً 6.3 فی صد بڑھی، جبکہ صنعت اور خدمات کے شعبوں میں سال بہ سال 1.2 فی صد کی معمولی نمو دیکھی گئی۔ زرعی شعبے کو کم Base کا فائدہ ہوا، جو مالی سال 2023 کی پہلی ششماہی کے دوران شدید سیلابوں سے متاثر ہوا تھا، اور مالی سال 2023 کے دوران غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے بھی اس کو فائدہ پہنچا۔ صنعت اور خدمات کے شعبے میں کمزوری کی بنیادی وجوہات زیادہ افراط زر، دہائیوں کی بلند ترین شرح سود، اور سخت مالیاتی پالیسی تھیں۔

مالی سال کے اختتام پر سی پی آئی افراط زر میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ مالی سال 2024 میں اوسطاً افراط زر کی شرح 23.5 فی صد رہی، جو پچھلے سال اسی مدت کے دوران ہونے والے 29.2 فی صد کی اوسط سے کافی کم تھی۔ افراط زر میں کمی کے باوجود، بینک دولت پاکستان نے مالی سال 2024 کے پہلے گیارہ مہینوں کے دوران پالیسی ریٹ کو 22 فی صد پر برقرار رکھا اور پہلی مرتبہ جون 2024 میں شرح سود میں 150 بیس پوائنٹس کمی کر کے اسے 20.5 فی صد پر لے کر آیا۔ شرح سود میں یہ کمی اس عرصے کے دوران ثانوی مارکیٹ میں سرکاری پیپر ز پر شرح منافع سے پہلے ہی ظاہر ہو چکی تھی۔

اس عرصے کے دوران پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں نمایاں بہتری آئی۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت درآمدی پابندیوں کے بتدریج خاتمے کے باوجود، مالی سال 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر 68.1 بلین امریکی ڈالر رہ گیا، جبکہ پچھلے سال اسی مدت میں یہ 3.3 بلین امریکی ڈالر تھا۔ اس عرصے کے دوران اشیاء کی درآمدات میں سال بہ سال 0.9 فی صد اضافہ ہوا، جو کہ 53.2 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ اشیاء کی برآمدات میں 11.5 فی صد کا سالانہ اضافہ ہوا اور یہ 31.1 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اسی دوران ترسیلات زر میں بھی 10.7 فی صد کا سالانہ اضافہ ہوا اور یہ 30.3 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اگر پاکستان میں موجود ملٹی نیشنل کمپنیز (MNCs) کے منافع کی ادائیگی کے سبب مئی اور جون میں بالترتیب 1.5 بلین اور 1.2 بلین امریکی ڈالر کے قابل ذکر پرائمری آمدنی کے اخراجات نہ ہوتے تو اس مدت کے دوران پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہوتا۔ ایسا پاکستان میں موجود ملٹی نیشنل کمپنیوں کے روکے ہوئے منافع کی ادائیگی کے تصفیے کی وجہ سے ہوا۔

بینک دولت پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر مئی 2023 میں ایک نازک سطح پر پہنچ کر 3.7 بلین امریکی ڈالر رہ گئے تھے، جو جون 2024 میں بڑھ کر 9.4 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئے۔ ملک کے زرمبادلہ ذخائر کی بحالی اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں نمایاں بہتری کے علاوہ، حکام کی جانب سے فاریکس مارکیٹ میں سٹہ بازی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن نے بینکوں اور اوپن مارکیٹ کے تبادلہ نرخوں کے درمیان فرق کو بڑھنے سے روکنے میں بھی مدد دی۔ انٹربینک میں پاکستانی روپے-امریکی ڈالر کے تبادلہ نرخ میں 2.7 فی صد اضافہ ہوا، جو جون 2023 کے آخر میں 285.99 سے بڑھ کر جون 2024 کے آخر میں 278.34 پر آ گیا، جبکہ اس مدت کے دوران سب سے کم سطح 307.10 ریکارڈ کی گئی تھی۔

مالی سال 25 کے بجٹ دستاویزات کے مطابق، مالی سال 2024 کے دوران پاکستان کے مالی خسارے کا تخمینہ 7.8 ٹریلین روپے یا GDP کا 7.4 فی صد اور پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 0.44 فی صد ہے جب کہ مالی سال 23 میں یہ بالترتیب 7.7 فی صد اور 0.8 فی صد خسارے میں تھا۔ ٹیکس آمدنی کی وصولی متاثر کن 30 فی صد سالانہ اضافے سے 9.3 ٹریلین روپے تک پہنچ گئی۔ نان ٹیکس آمدنی 79 فی صد سالانہ بڑھ کر 2.9 ٹریلین روپے تک پہنچ گئی، جس میں بڑا حصہ بینک دولت پاکستان کا زبردست منافع اور پٹرولیم لیوی وصولی کا تقریباً دو گنا ہونا ہے۔

بازار زرک جائزہ

مالی سال 2024 کا اختتام زری محاذ پر زری کے ساتھ ہوا، جس کے تحت مرکزی بینک، پالیسی ریٹ میں 150 بیس پوائنٹس کمی کر کے اسے 20.50 فی صد تک لے آیا۔ مرکزی بینک کی ایم پی سی کمیٹی نے یہ جائزہ لیا کہ سخت زری پالیسی کے ساتھ ساتھ مالیاتی استحکام کی وجہ سے بنیادی دباؤ بھی کم ہو رہا ہے۔ مالی سال 2024 میں شرح سود میں ممکنہ کمی کی توقعات پر حکومتی سکیورٹیز کی آمدنی میں نمایاں کمی ہوئی۔ ٹی-بلز کی آمدنی 190 سے 425 بیس پوائنٹس تک کم ہو گئی، جس کے بعد 3، 6، اور 12 ماہ کے ٹی-بلز کی شرح بالترتیب 19.97 فی صد، 19.91 فی صد، اور 18.68 فی صد پر بند ہوئی۔ PIBs (پاکستان انویسٹمنٹ منٹ بانڈز) کی آمدنی میں بھی کمی دیکھی گئی، جہاں 3 سالہ بانڈ کی شرح 16.50 فی صد

صد، 5 سالہ بانڈ کی شرح 15.37 فی صد، اور 10 سالہ بانڈ کی شرح 14.09 فی صد پر آگئی، اس طرح آمدنی میں 71 سے 297 پیسز پوائنٹس تک کم ہوئی۔ (کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ) کی شرحوں میں بھی 267 سے 405 پیسز پوائنٹس تک کمی ہوئی۔ 3 ماہ کا بیور کی شرح 20.24 فی صد، 6 ماہ کی 20.14 فی صد، اور 12 ماہ کی شرح 19.22 فی صد پر آگئی۔

سیالیت کے حوالے سے، منی مارکیٹ مستحکم رہی کیونکہ بینک دولت پاکستان کی جانب سے باقاعدگی سے قلیل مدتی اوپن مارکیٹ آپریشنز (OMO) کیے گئے، جنہوں نے یقینی بنایا کہ اوور نائٹ ریٹس پالیسی ریٹ کے قریب رہیں۔

فاریکس مارکیٹ میں، گزشتہ مالی سال کے دوران روپے کی قدر میں کمی ہوئی، حالانکہ مالی سال کے آغاز پر اس کی شرح تبادلہ 285.99 روپے فی امریکی ڈالر تھی۔ روپے نے 5 ستمبر کو انٹر بینک میں 307.10 کی کم ترین سطح کو چھوا اور بالآخر جون 2024 کے آخر میں 278.34 پر بند ہوا۔

نیچے دی گئی جدول میں سال کے دوران فکسڈ انکم انسٹرومنٹس پر شرح منافع (آمدنی) اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی شرح تبادلہ میں ہونے والی ردوبدل کا خلاصہ کیا گیا ہے:

Description	30-Jun-23	30-Jun-24	Change (bps)
KIBOR 3 Months	22.91%	20.24%	-267
KIBOR 6 Months	22.97%	20.14%	-283
KIBOR 12 Months	23.27%	19.22%	-405
T-Bill 1 Month	22.36%	20.46%	-190
T-Bill 3 Months	22.65%	19.97%	-268
T-Bill 6 Months	22.87%	19.91%	-296
T-Bill 12 Months	22.93%	18.68%	-425
PIB 3 Year	19.47%	16.50%	-297
PIB 5 Year	16.08%	15.37%	-71
PIB 10 Year	15.32%	14.09%	-123
US\$ Inter Bank	285.99	278.34	-7.65
US\$ Open Market	290	280.07	-9.93

شریحہ موافق مارکیٹ میں، حکومتی اجارہ (Ijarah GoP) کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان دیکھنے کو ملا۔ فلونگ ریٹ انسٹرومنٹس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ فکسڈ ریٹ انسٹرومنٹس کی قیمتوں میں کمی ہوئی، اور اس کی وجہ زبردانہ عرصے کے دوران شرح سود میں اضافہ تھا۔ مرکزی بینک نے سال کے دوران حکومت پاکستان اجارہ سکوک کی نیلامیاں جاری رکھیں، اور مارکیٹ سے اضافی سیالیت حاصل کرنے کے لیے نئے اثاثے بھی شامل کیے گئے۔ زیر جائزہ مدت کے دوران، مرکزی بینک نے اسلامی شرکاء سے مجموعی طور پر 1.9 ٹریلین روپے قرض لیا۔ اسٹیٹ بینک نے 3 سالہ اجارہ کی نیلامی کے ذریعے 457.70 ارب روپے جمع کیے جبکہ 1 سالہ میعاد میں 593.97 ارب روپے اور سب سے زیادہ رقم 5 سالہ میعاد میں 875 ارب روپے حاصل کی گئی۔

درج ذیل جدول اجارہ/سکوک کی تفصیلات کا خلاصہ کرتا ہے:

Floating Rate Ijarah

Ijarah	Type	Coupon	Remaining Life	Next Recst	Issue Size (bn)	Issue Date	Maturity	Reval		YTM	Change(Rs)
								30-Jun-23	30-Jun-24		
XX	Floater - 5 years	20.07%	0.84	31-Oct-24	76.39	30-Apr-20	30-Apr-25	96.42	99.36	19.66%	2.94
XXX	Floater - 5 years	21.18%	0.92	29-Nov-24	74.62	29-May-20	29-May-25	99.36	99.75	20.32%	0.39
XXXI	Floater - 5 years	19.83%	0.99	24-Dec-24	47.24	24-Jun-20	24-Jun-25	99.88	99.76	20.16%	-0.12
XXXII	Floater - 5 years	18.99%	1.08	29-Jul-24	186.91	29-Jul-20	29-Jul-25	99.40	99.96	19.86%	0.56
XXXIV	Floater - 5 years	20.76%	1.45	9-Dec-24	227.26	9-Dec-20	9-Dec-25	99.71	100.75	19.18%	1.04
XXXV	Floater - 5 years	21.20%	2.27	6-Oct-24	190.53	6-Oct-21	6-Oct-26	99.44	100.47	19.60%	1.03
XXXVI	Floater - 5 years	21.22%	3.34	29-Oct-24	584.96	29-Oct-21	29-Oct-26	99.26	101.03	19.58%	1.77
XXXVII	Floater - 5 years	21.32%	2.83	27-Oct-24	563.32	27-Apr-22	27-Apr-27	99.39	100.69	19.49%	1.30
XXXVIII	Floater - 5 years	21.32%	3.33	26-Oct-24	243.85	26-Oct-22	26-Oct-27	99.73	100.58	19.89%	0.85
XXXIX	Floater - 3 years	19.69%	1.52	5-Jul-24	105.96	5-Jan-23	5-Jan-26	99.00	99.21	20.46%	0.21
XXXX	Floater - 5 years	20.88%	4.00	26-Dec-24	131.98	26-Jun-23	26-Jun-28	0.00	103.03	19.77%	0.00
XXXXI	Floater - 1 year	21.80%	0.04	12-Jul-24	0.00	12-Jul-23	12-Jul-24	0.00	100.09	17.67%	0.00
XXXXVII	Floater - 3 years	20.53%	2.04	12-Jul-24	27.40	12-Jul-23	12-Jul-26	0.00	100.21	20.68%	0.00
XXXXVIII	Floater - 1 year	21.24%	0.11	7-Aug-24	99.71	7-Aug-23	7-Aug-24	0.00	100.06	19.10%	0.00
XXXXIX	Floater - 1 year	18.39%	0.23	20-Sep-24	5.79	20-Sep-23	20-Sep-24	0.00	99.96	17.69%	0.00
XLI	Floater - 1 year	19.86%	0.44	4-Dec-24	13.22	4-Dec-23	4-Dec-24	0.00	100.34	18.77%	0.00
XLII	Floater - 3 years	20.65%	2.44	4-Dec-24	81.69	4-Dec-23	4-Dec-26	0.00	99.82	20.10%	0.00
XLIII	Floater - 5 years	20.76%	4.44	4-Dec-24	99.97	4-Dec-23	4-Dec-26	0.00	100.16	19.87%	0.00
XLIV	Floater - 3 years	21.11%	2.58	24-Jul-24	46.17	24-Jan-24	24-Jan-27	0.00	100.50	19.89%	0.00
XLV	Floater - 5 years	21.24%	4.58	24-Jul-24	259.30	24-Jan-24	24-Jan-29	0.00	100.20	21.54%	0.00
XLVI	Floater - 3 years	21.35%	2.87	10-Nov-24	0.65	10-May-24	10-May-27	0.00	100.00	20.20%	0.00
XLVII	Floater - 5 years	21.63%	4.87	10-Nov-24	74.62	10-May-24	10-May-29	0.00	100.00	20.40%	0.00
XLVIII	Floater - 3 years	19.64%	3.00	28-Dec-24	5.08	28-Jun-24	28-Jun-27	0.00	100.00	19.64%	0.00
XLIX	Floater - 5 years	19.63%	5.00	28-Dec-24	15.11	28-Jun-24	28-Jun-30	0.00	100.00	19.63%	0.00
PES I	Floater - 10 years	22.53%	4.68	1-Sep-24	200.00	1-Mar-19	1-Mar-29	106.80	106.80	18.76%	0.00
PES II	Floater - 10 years	21.17%	5.90	21-Nov-24	199.97	21-May-20	21-May-30	100.02	100.12	20.11%	0.10
		21.10%	Total		3569.13						

Fixed Rate Ijarah

Ijarah	Type	Coupon	Remaining Life	Next Coupon	Issue Size (Rs)	Issue Date	Maturity	Basis		YTM	Change(Pt)
								30-Jun-23	30-Jun-24		
KKH	Fixed - 5 Years	8.17%	1.08	26-Jul-24	44.55	29-Jun-20	29-Jun-25	85.70	86.43	23.17%	0.73
KKV	Fixed - 5 Years	9.45%	1.58	26-Jul-24	8.25	10-Jun-21	20-Jun-26	88.08	84.43	21.22%	-3.65
KKW	Fixed - 5 Years	9.30%	1.27	4-Oct-24	12.73	4-Oct-21	4-Oct-26	89.00	83.52	18.67%	-5.08
KKX	Fixed - 5 Years	11.40%	2.47	13-Dec-24	323.83	15-Dec-21	15-Dec-26	90.08	87.38	17.84%	-2.50
KKY	Fixed - 5 Years	12.40%	2.83	27-Dec-24	80.89	27-Aug-21	27-Aug-26	92.37	88.38	17.27%	-3.79
KKZ	Fixed - 5 Years	12.25%	3.19	16-Nov-24	0.25	16-Nov-21	16-Nov-27	97.37	88.33	17.16%	-9.04
KK1	Fixed - 3 Years	18.24%	1.80	17-Oct-24	25.01	17-Aug-23	17-Aug-26	100.00	100.41	17.90%	0.41
KK2	Fixed - 3 Years	18.49%	1.99	26-Dec-24	292.22	26-Jun-23	26-Jun-26	0.00	103.21	18.25%	0.00
KK3	Fixed - 1 Year	22.15%	0.04	12-Jul-24	0.00	12-Jul-23	12-Jul-24	0.00	100.00	18.93%	0.00
KK4	Fixed - 1 Year	22.00%	0.11	7-Aug-24	1.81	7-Aug-23	7-Aug-24	0.00	100.00	20.00%	0.00
KK5	Fixed - 1 Year	22.55%	0.12	20-Sep-24	10.15	20-Sep-23	20-Sep-24	0.00	100.00	20.14%	0.00
KK6	Fixed - 3 Years	16.30%	4.28	20-Sep-24	0.50	20-Sep-23	20-Sep-26	0.00	101.65	15.93%	0.00
KK7	Fixed - 1 Year	22.48%	0.18	9-Oct-24	111.25	9-Oct-23	9-Oct-24	0.00	100.56	19.08%	0.00
KK8	Fixed - 3 Years	16.19%	2.44	4-Dec-24	34.65	4-Dec-21	4-Dec-26	0.00	100.11	18.12%	0.00
KK9	Fixed - 3 Years	15.70%	4.44	4-Dec-24	52.85	4-Dec-21	4-Dec-26	0.00	101.33	15.33%	0.00
KK10	Fixed - 1 Year	19.52%	0.45	N/A	36.07	11-Dec-23	9-Dec-24	0.00	92.58	17.84%	0.00
KK11	Fixed - 1 Year	19.50%	0.57	N/A	6.42	24-Jan-24	23-Jan-25	0.00	90.95	19.39%	0.00
KK12	Fixed - 3 Years	16.00%	2.58	24-Feb-24	1.31	24-Jan-24	24-Jan-27	0.00	100.00	16.00%	0.00
KK13	Fixed - 3 Years	13.49%	4.38	24-Feb-24	25.12	24-Jan-24	24-Jan-29	0.00	100.00	15.48%	0.00
KK14	Fixed - 1 Year	20.10%	0.65	N/A	1.27	21-Feb-24	19-Feb-25	0.00	86.57	23.99%	0.00
KK15	Fixed - 1 Year	20.10%	0.73	N/A	13.49	19-Mar-24	18-Mar-25	0.00	88.30	24.67%	0.00
KK16	Fixed - 1 Year	20.24%	0.75	N/A	15.95	29-Mar-24	28-Mar-25	0.00	88.00	18.23%	0.00
KK17	Fixed - 1 Year	20.24%	0.78	N/A	25.30	8-Apr-24	8-Apr-25	0.00	85.36	20.30%	0.00
KK18	Fixed - 3 Years	20.00%	0.82	N/A	33.04	26-Apr-24	25-Apr-25	0.00	84.86	18.84%	0.00
KK19	Fixed - 1 Year	20.20%	0.86	N/A	54.59	10-May-24	9-May-25	0.00	86.13	18.68%	0.00
KK20	Fixed - 3 Years	15.85%	2.87	10-Nov-24	0.08	10-Nov-24	10-Nov-27	0.00	100.00	15.82%	0.00
KK21	Fixed - 3 Years	15.48%	2.87	10-Nov-24	45.13	10-Nov-24	10-Nov-27	0.00	100.00	15.45%	0.00
KK22	Fixed - 1 Year	19.89%	0.90	N/A	48.15	24-Nov-24	23-Nov-25	0.00	85.69	18.53%	0.00
KK23	Fixed - 1 Year	18.50%	1.00	N/A	21.22	28-Jan-24	27-Jan-25	0.00	84.42	18.50%	0.00
KK24	Fixed - 3 Years	15.30%	3.00	28-Dec-24	0.22	28-Jan-24	28-Jan-27	0.00	100.00	15.30%	0.00
KK25	Fixed - 3 Years	15.10%	3.00	28-Dec-24	0.08	28-Jan-24	28-Jan-29	0.00	100.00	15.10%	0.00
Total								1299.80			

Source: SBP/PSX and MUFAP

کارپوریٹ سیکٹر کو طویل مدتی سکوک کے ذریعے پیسہ حاصل کرنے میں چیلنجز کا سامنا رہا؛ تاہم، سال کے دوران قلیل مدتی انسٹرومنٹس کے اجراء میں اضافہ دیکھا گیا۔ زیر جائزہ مدت کے دوران، حوصلہ افزا بات یہ رہی کہ شوگر، ٹیلی کمیونیکیشن، مواصلات اور توانائی کے شعبوں سے کچھ نئی بڑی کمپنیوں نے شریعہ موافق قرض مارکیٹ کے ذریعے فنانسنگ کے مواقع تلاش کیے ہیں۔ کارپوریٹ ادارے بنیادی طور پر مختصر مدتی انسٹرومنٹس کو ہدف بناتے ہیں تاکہ ورکنگ لیویڈی کی ضروریات پوری کی جاسکیں، جو روایتی متبادل جیسے ٹی ایف سیز اور بینک قرضوں کے مقابلے میں بہتر اسپریڈ پر دستیاب ہیں۔ دوسری طرف، نئے سکوک (حکومتی اور کارپوریٹ دونوں) کے اجراء میں مسلسل اضافہ اسلامی میوچل فنڈز کے لیے سرمایہ کاروں کو پرکشش منافع فراہم کرنے اور ان کی سیالیت کو موثر طریقے سے منظم کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔

بازار حصص کا جائزہ

مالی سال '24 کے دوران، بازار حصص نے 2016 کے بعد سب سے زبردست اضافہ دیکھا، جس کے دوران KMI-30 انڈیکس 78.7 فی صد بڑھ کر 126,424 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسی طرح، KSE-100 انڈیکس بھی اس دوران 89 فی صد بڑھا، اور 78,445 پوائنٹس پر بند ہوا۔ یہ متاثر کن تیزی بنیادی طور پر جولائی 2023 کے آخر میں نئے آئی ایم ایف پروگرام کے آغاز کی وجہ سے آئی، (جو کہ اپریل 2024 تک کے لیے 3 ارب ڈالر کا نو میٹن گائیڈ لائن (SBA) تھا)، جس نے میکرو اقتصادی استحکام میں ایک اہم کردار ادا کیا اور بیرونی ادائیگیوں کے ایک سنگین بحران سے بچنے میں مدد کی۔

اس دوران، بازار میں تیزی کے رجحان کی حمایت شرح سود میں کمی کی بڑھتی ہوئی توقعات نے کی کیونکہ مہنگائی اپنے بلند ترین نقطہ کو چھو چکی تھی۔ تاہم، اسٹیٹ بینک نے سال کے زیادہ تر عرصہ کے لیے بلند شرح سود کو برقرار رکھا، جبکہ پہلی بار پالیسی کی شرح میں کمی کا اعلان جون کے زری پالیسی بیان میں 150 بیس پوائنٹس کی کمی کے ساتھ کیا گیا، جس سے پالیسی کی شرح 22 فی صد سے 20.5 فی صد ہو گئی۔ شرح سود میں یہ کمی جون 2024 تک افراط زر کی شرح میں قابل ذکر کمی اور رواں کھاتوں کے توازن میں نمایاں بہتری کی بنیاد پر کی گئی۔

اس دور میں ایک اہم واقعہ عام انتخابات تھے جو 8 فروری 2024 کو ہوئے۔ پی ایم ایل-ن کی قیادت میں نئی حکومت کی تشکیل نے بازار پر مثبت اثر ڈالا، کیونکہ ان کا ترقیاتی سرگرمیوں پر توجہ دینے کا ریکارڈ ہے۔ سرمایہ کاروں کا یہ نیا بڑھتا ہوا اعتماد بازار میں ان کی سرگرمی اور شرکت سے بھی واضح تھا، جہاں کے ایس ای 100 انڈیکس کا اوسط یومیہ حجم 2.4 گنا بڑھ کر 461 ملین حصص تک پہنچ گیا، جبکہ پچھلے سال کے اسی دور میں یہ 192 ملین حصص تھا۔

بین الاقوامی ایجنسیوں نے آئی ایم ایف پروگرامز کے مثبت اثرات کے طور پر پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کی۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے جولائی 2023 میں پاکستان کی ریٹنگ کو 'CCC' میں اپ گریڈ کر دیا۔ دسمبر 2023 میں دوبارہ اس کی تجدید کی گئی۔

کارپوریٹ آمدنی چیلنجز اقتصادی حالات کے باوجود مستحکم رہیں؛ جس کی بڑی وجہ کھاد اور مینکنگ کے شعبوں کی بڑی شراکت تھی جہاں آمدنی میں 50 فی صد سے زائد اضافہ ہوا، جبکہ FY'24 کے ابتدائی 9 ماہ کا مجموعی منافع 29 فی صد تک بڑھا۔ منافع میں یہ بہتری غیر ملکی سرمایہ کاروں بازار حصص میں سرمایہ کاری سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جہاں اسپیشل کنورٹیبیل روپی کاؤنٹس (SCRA) کی مالیت 1.0 بلین امریکی ڈالر سے بڑھ کر مالی سال '24 میں 1.8 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ یہ نمایاں اضافہ، بنیادی طور پر کرنسی کی قدر میں اضافے، حصص کی قیمتوں میں بڑھوتری، اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے حصص کی خریداری میں اضافے کے باعث ہوئی ہے۔

عالمی سطح پر، امریکا کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو نے جون 2024 کے اجلاس تک سود کی شرح کو 22 سال کی بلند ترین سطح 5.25 فی صد تا 5.50 فی صد پر برقرار رکھا، جو جولائی 2023 سے مسلسل اجلاسوں میں شرح سود کو اسی سطح پر برقرار رکھتا ہوا آرہا ہے۔ امریکی مارکیٹ اب 2024 میں شرح سود میں صرف ایک کٹوتی کی توقع کر رہی ہے، جبکہ فیڈرل ریزرو مزید یقینی اعداد و شمار کی تلاش میں ہے تاکہ زری نرمی شروع کر سکے۔ متعدد عالمی انڈیکسز نے 12 ماہ کی مدت میں اپنی تاریخ کی بلند ترین سطحوں کو چھوا۔ اس دوران S&P 500 انڈیکس میں 23 فی صد اضافہ ہوا، جبکہ MSCI ایمریکن مارکیٹ انڈیکس میں 10 فی صد اضافہ ہوا۔

انڈیکس میں بڑے حصہ دار:

کلیدی شعبوں میں آٹو پارٹس اینڈ ایکسیسریز، کیبل اینڈ الیکٹریکل گڈز، پاور جنریشن اینڈ ڈسٹری بیوشن اور کمرشل بینکنگ کے شعبے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ مالی سال '24 کے دوران KMI-30 انڈیکس میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے حصص یہ تھے:

Major Positive Contributors to the Index	Contribution to KMI-30 (Points)	Total Return (%)
Hub Power Co Ltd	9,839	143.69
Meezan Bank Ltd	7,833	219.13
Engro Fertilizers Ltd	6,360	147.60
Lucky Cement Ltd	4,191	79.61


دوسری طرف، ٹرانسپورٹ اور ٹیکنالوجی شعبہ جات کی کارکردگی بدترین رہی۔ اس عرصے کے دوران، درج ذیل نے KMI-30 انڈیکس کو سست روی کا شکار کیا:

Major Negative Contributors to the Index	Contribution to KMI-30 (Points)	Total Return (%)
Colgate Palmolive	-978	-24.95
Lotte Chemical Pakistan Ltd	-224	-30.68
TPL Properties Ltd	-91	-29.86

حصص میں بہاؤ

مالی سال '24 کے دوران پاکستان اسٹاک ایکس چینج کی ریکارڈ ٹوڑ تیزی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اہم کردار ادا کیا جو 152 ملین امریکی ڈالر مالیت کا سرمایہ بازار میں لے کر آئے۔ غیر ملکیوں کی طرف سے جن شعبہ جات میں خریداری کی ان اہم شعبوں میں کمرشل بینک (62 ملین امریکی ڈالر) اور فریٹ لائرز (15 ملین امریکی ڈالر) شامل ہے۔ مقامی سرمایہ کار اس دوران بڑی حد تک خالص بیچنے والے رہے، لیکن اس کمائی میں بیمہ کمپنیوں (126 ملین USD) اور کارپوریٹ (36 ملین USD) کی طرف سے مضبوط تعاون کے ساتھ اضافہ دیکھا گیا۔ مقامی سرمایہ کار اس دوران بڑی حد تک خالص فروخت کنندہ رہے، لیکن اس تیزی میں بیمہ کمپنیوں (126 ملین امریکی ڈالر) اور کارپوریٹس (36 ملین امریکی ڈالر) کی طرف سے بھرپور حصہ ڈالا گیا۔ مقامی سرمایہ کاروں میں بڑے فروخت کنندگان میں بینک اور ڈی ایف آئیز (141 ملین امریکی ڈالر)، انفرادی سرمایہ کار (60 ملین امریکی ڈالر) اور میوچل فنڈز (47 ملین امریکی ڈالر) شامل تھے۔ میوچل فنڈز سے سرمایہ نکالنے کا رجحان جاری رہنے اور بینکوں کی جانب سے ایکویٹی بکس کی سیالیت بازار میں حصص کی رسد کا بنیادی ذریعہ رہے۔

درج ذیل گراف مالی سال '24 کے دوران KMI-30 انڈیکس میں اتار چڑھاؤ اور اس کا باعث بننے والے اہم عناصر کا احاطہ کرتا ہے:




میوچل فنڈز انڈسٹری کا جائزہ

مالی سال '24 کے دوران، میوچل فنڈ انڈسٹری کے زیر انتظام اثاثہ جات کی مالیت 65 فیصد بڑھ کر 2,653 ارب روپے ہو گئی۔ شریعہ موافق زیر انتظام اثاثہ جات 78 فیصد بڑھ کر 1,320 ارب روپے ہو گئے، جس نے مجموعی طور پر میوچل فنڈ انڈسٹری میں شریعہ موافق فنڈز کا حصہ 50 فیصد تک پہنچا دیا۔ میوچل فنڈز انڈسٹری میں الیمیز ان کا مارکیٹ شیئر 19 فی صد رہا جبکہ شریعہ موافق فنڈز میں یہ 38 فی صد ہے، جو جون 2024 کے اختتام تک انڈسٹری میں سب سے زیادہ ہے۔ پینشن فنڈ کے زمرے میں، میزبان تحفظ پینشن فنڈ کا مارکیٹ شیئر 33 فی صد تھا جب کہ شریعہ موافق فنڈز میں 51 فی صد ہے، جو جون 2024 کے اختتام تک اس انڈسٹری میں سب سے زیادہ ہے۔


مالی سال '23 کے مقابلے میں مالی سال '24 میں انڈسٹری کے زیر انتظام اثاثہ جات میں ردوبدل کی تفصیل درج ذیل ہے:

	FY23	FY24	Change
	(Rs. In Billion)		(%)
Sovereign, Money Market and Income Funds			
Shariah Compliant Funds	648	1,173	81.2
Conventional Funds	775	1,151	48.5
Total Funds	1,423	2,324	63.4
Equity Funds (Including Index Tracker Funds)			
Shariah Compliant Funds	47	70	50.0
Conventional Funds	88	143	63.1
Total Funds	134	213	58.6
Capital Protected, balanced, and asset allocation Funds			
Shariah Compliant Funds	15	26	69.0
Conventional Funds	9	13	36.5
Total Funds	25	39	56.9
Commodity Funds			
Shariah Compliant Funds	1	2	27.7
Total Funds	1	2	27.7
Voluntary Pension Funds			
Shariah Compliant Funds	32	49	50.9
Conventional Funds	17	26	49.3
Total Funds	50	75	50.3
Total Industry	1,633	2,653	62.5

انڈسٹری میں المیزان کا مارکیٹ شیئر



انڈسٹری میں میزان تحفظ پنشن فنڈ کا مارکیٹ شیئر



کارکردگی کا جائزہ (فنڈز)

میزان روزانہ آمدنی فنڈ

30 جون 2024 کو میزان روزانہ آمدنی فنڈ (MRAF) کے خالص اثاثے 114,606 ملین روپے تھے جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 96,006 ملین روپے تھے، جو کہ 19 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ سال کے دوران، فنڈ نے 21.50 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ بیچ مارک سالانہ منافع 10.28 فی صد رہا۔ سال کے آخر میں، 30 فی صد فنڈ ٹرم ڈپازٹ ریسپنڈس میں رکھا گیا تھا، 24 فی صد جی او بی اجارہ / حکومت کے ضمانت شدہ سکوٹ میں، 10 فی صد اسلامی کارپوریٹ سکوٹ میں، 2 فی صد بیج معجل پلیسمنٹ اور کل اثاثوں میں سے 32 فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز اور 2 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان کیش فنڈ

میزان کیش فنڈ (MCF) کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 71,892 ملین روپے تھے جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 25,882 ملین روپے تھے، جو کہ 178 فی صد کا

اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 51.2750 روپے تھی۔ اس سال فنڈ نے 21.22 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ بیٹچ مارک سالانہ منافع 10.28 فی صد رہا۔ سال کے آخر میں، فنڈ کا 11 فی صد اسلامی کارپوریٹ سکوک میں، 15 فی صد ٹرم ڈپازٹ ریسیٹس میں اور کل اثاثوں کا 59 فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں جب کہ 15 فی صد دیگر میں لگا ہوا تھا۔

میزان اسلامک انکم فنڈ

میزان اسلامی انکم فنڈ (MIIF) کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 15,980 ملین روپے تھے جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 11,474 ملین روپے تھے، یعنی 39 فی صد کا اضافہ ہوا۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 51.9209 روپے تھی۔ سال کے دوران، فنڈ نے 20.94 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ بیٹچ مارک سالانہ منافع 10.10 فی صد رہا۔ سال کے آخر میں، فنڈ کا 11 فی صد اسلامی کارپوریٹ سکوک میں، 55 فی صد جی او پی اجارہ/حکومتی ضمانت شدہ سکوک میں اور 27 فی صد خالص اثاثہ جات اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں جب کہ 7 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان سوورن فنڈ

میزان سوورن فنڈ (MSF) کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 58,055 ملین روپے تھے جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 8,133 ملین روپے تھے، جو کہ 614 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 52.3857 روپے تھی۔ سال کے دوران فنڈ نے 21.89 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ بیٹچ مارک کی سالانہ منافع کی شرح 18.95 فی صد تھی۔ سال کے آخر میں، فنڈ کا 60 فی صد سرمایہ جی او پی اجارہ/حکومتی ضمانت شدہ سکوک میں، 24 فی صد اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں اور 16 فی صد دیگر میں رکھے ہوئے تھے۔

میزان ڈیلی انکم فنڈ

میزان ڈیلی انکم فنڈ - MDIP

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 146,252 ملین روپے تھے جو 30 جون 2023 کو 91,147 ملین روپے تھے، جو کہ 60 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ سال کے دوران، پلان نے 21.78 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ بیٹچ مارک کا سالانہ منافع 10.10 فی صد تھا۔ سال کے آخر میں، فنڈ کا 14 فی صد ٹرم ڈپازٹ ریسیٹس میں، 7 فی صد اسلامی کارپوریٹ سکوک میں، 42 فی صد جی او پی اجارہ/حکومتی ضمانت شدہ سکوک میں، کل اثاثہ جات کا 34 فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں اور 3 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان ڈیلی انکم فنڈ (میزان ماہانہ منافع پلان)

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 8,656 ملین روپے پر پہنچ گئے جو کہ 30 جون 2023 کو 5,543 ملین روپے تھے، جو کہ 56 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ سال کے دوران، پلان نے 20.00 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جب کہ بیٹچ مارک کا سالانہ منافع 10.10 فی صد تھا۔ سال کے آخر میں، فنڈ کا 22 فی صد DIFs میں رکھا ہوا تھا، خالص اثاثہ جات کا 76 فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں اور 2 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان ڈیلی انکم فنڈ (میزان منافع پلان)

میزان منافع پلان 29 اگست 2023 کو شروع ہوا۔ پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 2,742 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.2342 روپے تھی۔ اس مدت کے دوران، پلان نے سالانہ 21.71 فی صد منافع فراہم کیا جب کہ بیٹچ مارک کا سالانہ منافع 10.37 فی صد رہا۔ سال کے آخر میں، فنڈ کا 32 فی صد جی او پی اجارہ/حکومتی ضمانت شدہ سکوک میں، 44 فی صد خالص اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں اور 24 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان ڈیلی انکم فنڈ (میزان سہل اکاؤنٹ پلان)

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 90 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.3746 روپے تھی۔ سال کے دوران، پلان نے 20.21 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیٹچ مارک کا سالانہ منافع 10.10 فی صد تھا۔ سال کے آخر میں، 99 فی صد خالص اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں اور 1 فی صد دیگر میں رکھے ہوئے تھے۔

میزان ڈیلی انکم فنڈ (میزان سپر سیور پلان)

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 912 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.2339 روپے تھی۔ سال کے دوران پلان نے 18.86 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جب کہ بیٹچ مارک کا سالانہ منافع 11.04 فی صد رہا۔ سال کے آخر میں، خالص اثاثوں کا 85 فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز کے ساتھ اور 15 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان فکسڈ ٹرم فنڈ

میزان پائیدار منافع پلان-V

میزان پائیدار منافع پلان-V کو 30 جنوری 2024 کو دوبارہ لانچ کیا گیا۔ منصوبے کے کل اثاثے 30 جون 2024 کو 8,649 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نیٹ یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ اس دوران، پلان نے 20.89 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ بیٹج مارک کا سالانہ منافع 9.18 فی صد تھا۔ زیر جائزہ سال کے آخر میں پلان کا 90 فی صد ٹرم ڈپازٹ ریٹینپٹس میں اور 10 فی صد خالص اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں رکھے ہوئے تھے۔

میزان پائیدار منافع پلان-VII

میزان پائیدار منافع پلان-VII، 11 جولائی 2023 کو شروع ہوا۔ پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 تک 865 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نیٹ یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.4990 روپے تھی۔ اس دوران، پلان نے 21.63 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ بیٹج مارک کا سالانہ منافع 7.52 فی صد تھا۔ سال کے آخر میں، پلان کا 85 فی صد کارپوریٹ سٹاک میں، 10 فی صد خالص اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں اور 5 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان پائیدار منافع پلان-VIII

میزان پائیدار منافع پلان-VIII کو 1 اپریل 2024 کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ اس پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 1,700 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نیٹ یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.0463 روپے تھی۔ اس دوران، پلان نے 20.29 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ اس کے مقابلے میں بیٹج مارک کا سالانہ منافع 11.08 فی صد تھا۔ سال کے آخر میں، پلان کا 93 فی صد کارپوریٹ سٹاک میں، 7 فی صد خالص اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز کے ساتھ تھے اور باقی دیگر میں تھے۔

میزان پائیدار منافع پلان-IX

میزان پائیدار منافع پلان-IX کو 8 اپریل 2024 کو شروع کیا گیا۔ منصوبے کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 813 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نیٹ یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ اس دوران، پلان نے 20.21 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ بیٹج مارک کا سالانہ منافع 11.08 فی صد تھا۔ سال کے آخر میں، پلان کا 94 فی صد کارپوریٹ سٹاک میں، 6 فی صد خالص اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز کے ساتھ تھے اور باقی دیگر میں تھے۔

میزان پائیدار منافع پلان-X

میزان پائیدار منافع پلان-X، 25 اپریل 2024 کو شروع ہوا۔ منصوبے کے خالص اثاثے 30 جون 2024 تک 2,846 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نیٹ یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ اس مدت کے دوران، منصوبے نے 22.09 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ اس کے مقابلے میں بیٹج مارک کا سالانہ منافع 10.18 فی صد تھا۔ سال کے آخر میں، پلان کا 99 فی صد کارپوریٹ سٹاک میں لگا ہوا تھا، جبکہ 1 فی صد خالص اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز اور دیگر کے ساتھ تھے۔

میزان پائیدار منافع پلان-XI

میزان پائیدار منافع پلان-XI کا اجرا 30 جون 2024 کو ہوا۔ اس پلان کے اثاثہ جات 30 جون 2024 تک 5,981 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نیٹ یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ اس دوران پلان نے سالانہ بنیادوں پر 20.25 فی صد منافع دیا جبکہ بیٹج مارک کا منافع 11.20 فی صد رہا۔ سال کے اختتام پر 98 فی صد اثاثے کارپوریٹ سٹاک میں اور 2 فی صد اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں لگائے گئے تھے۔

میزان پائیدار منافع پلان-XII

میزان پائیدار منافع پلان-XII کا آغاز 23 مئی 2024 کو ہوا۔ 30 جون 2024 تک اس پلان کے اثاثہ جات 807 ملین روپے تک پہنچ گئے۔ 30 جون 2024 کو نیٹ یونٹ خالص قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ اس مدت کے دوران، پلان نے 24.61 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ بیٹج مارک کا سالانہ بنیاد پر منافع 10.46 فی صد رہا۔ سال کے اختتام پر 98 فی صد اثاثے کارپوریٹ سٹاک میں اور 2 فی صد اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی ونڈوز میں لگائے گئے تھے۔

میزان اسلامک فنڈ

میزان اسلامک فنڈ (MIF) کے اثاثہ جات 30 جون 2024 کو 23,095 ملین روپے تھے جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 17,155 ملین روپے تھے، اس طرح 35 فی صد کا اضافہ ہوا۔ 30 جون 2024 کو نیٹ یونٹ خالص قیمت (NAV) 81.6663 روپے تھی۔ اس دوران فنڈ نے 73.00 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ اس کے مقابلے میں بیٹج مارک کے ایس ای میزان انڈیکس (KMI-30) کا منافع 78.70 فی صد رہا۔



المیزان میوچل فنڈ

المیزان میوچل فنڈ (AMMF) کے اثاثہ جات 30 جون 2024 کو 4,874 ملین روپے تھے، جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 3,153 ملین روپے تھے، اس طرح 55 فیصد کا اضافہ ہوا۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 24.4013 روپے تھی۔ اس سال کے دوران، فنڈ نے 74.84 فیصد کا منافع فراہم کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں بیچ مارک کے ایس ای میزان انڈیکس (KMI-30) کا منافع 78.70 فیصد رہا۔

کے ایس ای میزان انڈیکس فنڈ

کے ایس ای میزان انڈیکس فنڈ (KMIF) کے اثاثہ جات 30 جون 2024 کو 3,973 ملین روپے تھے، جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 2,585 ملین روپے تھے، اس طرح 54 فیصد کا اضافہ ہوا۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 101.5393 روپے تھی۔ اس سال کے دوران، فنڈ نے 75.02 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں بیچ مارک کے ایس ای میزان انڈیکس (KMI-30) کا منافع 78.70 فیصد رہا۔

میزان ڈیڈیکٹیڈ ایکویٹی فنڈ

میزان ڈیڈیکٹیڈ ایکویٹی فنڈ (MDEF) کے اثاثہ جات 30 جون 2024 کو 385 ملین روپے تھے، جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 406 ملین روپے تھے، اس طرح 5 فیصد کی کمی واقع ہوئی۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 67.6969 روپے تھی۔ اس سال کے دوران، فنڈ نے 74.90 فیصد کا منافع فراہم کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں بیچ مارک کے ایس ای میزان انڈیکس (KMI-30) کا منافع 78.70 فیصد رہا۔

میزان انرجی فنڈ

میزان انرجی فنڈ (MEF) کے اثاثہ جات 30 جون 2024 کو 1,136 ملین روپے تھے، جبکہ 30 جون 2023 میں یہ 452 ملین روپے تھے، اس طرح 151 فیصد اضافہ ہوا۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 34.1048 روپے تھی۔ اس سال کے دوران، فنڈ نے 86.79 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ موازنہ کے لیے بیچ مارک کے ایس ای میزان انڈیکس (KMI-30) کا منافع 78.70 فیصد رہا۔

میزان تحفظ پنشن فنڈ

میزان تحفظ پنشن فنڈ MTPF میں چار ذیلی فنڈز شامل ہیں: ایکویٹی سب فنڈ، ڈیبٹ سب فنڈ، منی مارکیٹ سب فنڈ، اور گولڈ سب فنڈ۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران، ایکویٹی سب فنڈ نے 77.07 فی صد کا منافع فراہم کیا، جبکہ گولڈ سب فنڈ نے 5.36 فی صد کا منافع دیا۔ ڈیبٹ اور منی مارکیٹ سب فنڈز نے بالترتیب 20.78 فی صد اور 22.06 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا۔ ہر ذیلی فنڈ کی کارکردگی کا جائزہ درج ذیل ہے:

ایکویٹی سب فنڈ

اس سب فنڈ کے اثاثہ جات 30 جون 2024 کو 5,267 ملین روپے تھے، جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 3,458 ملین روپے تھے، جو کہ 52 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 861.5410 روپے تھی۔

ڈیبٹ سب فنڈ

اس سب فنڈ کے اثاثہ جات 30 جون 2024 کو 6,846 ملین روپے تھے، جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 5,252 ملین روپے تھے، جو کہ 30 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 421.1214 روپے تھی۔

منی مارکیٹ سب فنڈ

اس سب فنڈ کے اثاثہ جات 30 جون 2024 کو 12,046 ملین روپے تھے، جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 8,031 ملین روپے تھے، جو کہ 50 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 414.6721 روپے تھی۔

گولڈ سب فنڈ

اس سب فنڈ کے اثاثہ جات 30 جون 2024 کو 471 ملین روپے تھے، جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 416 ملین روپے تھے، جو کہ 13 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 308.3108 روپے تھی۔

میزان جی او کے پی پنشن فنڈ

میزان جی او کے پی پنشن فنڈ (MGOKPPF) کا منی مارکیٹ سب فنڈ 14 دسمبر 2023 کو لانچ کیا گیا۔ 30 جون 2024 کو اس سب فنڈ کے اثاثہ جات 110 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 111.9656 روپے تھی۔ اس مدت کے دوران، اس پلان نے 21.95 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا۔



میزان ہیلنسڈ فنڈ

میزان ہیلنسڈ فنڈ (MBF) کے 30 جون 2023 کو 1,689 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 30 جون 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 1,913 ملین روپے ہوگئی جو کہ 13 فی صد اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو اس کی نی یونٹ خالص قیمت 18.3552 روپے تھی۔ سال کے دوران فنڈ نے 38.19 فیصد کے بیچ مارک منافع کے مقابلے میں 43.38 فیصد کا سالانہ منافع فراہم کیا۔

میزان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ

میزان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ (MAAF) کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 312 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2023 کو 454 ملین روپے تھے، اس طرح 31 فیصد کمی ہوئی۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV)، 60.7038 روپے تھی۔ سال کے دوران فنڈ نے 64.39 فی صد کے بیچ مارک منافع کے مقابلے میں 60.44 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا۔

میزان گولڈ فنڈ

30 جون 2023 کو 1,346 ملین روپے کے مقابلے میں 30 جون 2024 کو فنڈ کے خالص اثاثے 1,719 ملین روپے تھے جو کہ 28 فیصد اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 163.9226 روپے تھی۔ سال کے دوران فنڈ نے 3.09 فی صد کے بیچ مارک منافع کے مقابلے میں 5.38 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا۔

میزان پاکستان ایکسیج ٹریڈ فنڈ

میزان پاکستان ایکسیج ٹریڈ فنڈ (MPETF) کے خالص اثاثے جون 2023 میں 69 ملین روپے کے مقابلے میں 30 جون 2024 کو 97 ملین روپے تھے، جو کہ 40 فیصد اضافہ ہے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 13.5213 روپے تھی۔ سال کے دوران فنڈ نے MZNPI کے 93.94 کے بیچ مارک منافع کے مقابلے میں 85.78 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا۔

میزان فنانشل پلاننگ فنڈ آف فنڈز

ایگریسیو ایلوکیشن پلان

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2023 کو 64 ملین روپے کے مقابلے میں 30 جون 2024 کو 88 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 102.6068 روپے تھی۔ سال کے دوران پلان نے 60.30 فی صد کے بیچ مارک منافع کے مقابلے میں 55.25 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا۔

موڈریٹ ایلوکیشن پلان

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 69 ملین روپے تھے جب کہ 30 جون 2023 کو یہ 62 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 93.6467 روپے تھی۔ سال کے دوران پلان نے 45.89 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ اس کے مقابلے میں بیچ مارک کا منافع 46.31 فی صد تھا۔

کنزرویٹو ایلوکیشن پلان

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 49 ملین روپے تھے جب کہ 30 جون 2023 کو یہ 59 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 91.5529 روپے تھی۔ سال کے دوران منصوبے نے 32.52 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ اس کے مقابلے میں بیچ مارک کا منافع 30.91 فی صد تھا۔

ویری کنزرویٹو ایلوکیشن پلان

یہ پلان 18 اگست 2023 کو شروع کیا گیا۔ پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 1.1 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.3218 روپے تھی۔ اس مدت کے دوران منصوبے نے 19.42 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ اس کے مقابلے میں بیچ مارک کا منافع 15.60 فی صد تھا۔

میزان ایسیٹ ایلوکیشن پلان - I

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 93 ملین روپے تھے جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 71 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو نی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 83.2857 روپے تھی۔ سال کے دوران پلان نے 49.92 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ اس کے مقابلے میں بیچ مارک کا منافع 45.45 فی صد تھا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن فنڈ

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن پلان - I

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 94 ملین روپے تھے، جب کہ 30 جون 2023 کو یہ 188 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 56.1418 روپے تھی۔ سال کے دوران، پلان نے 48.52 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا، جب کہ بیچ مارک کا منافع 44.10 فی صد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن پلان - II

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 42 ملین روپے تھے، جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 160 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 48.3710 روپے تھی۔ سال کے دوران، پلان نے 49.26 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا، جب کہ بیچ مارک کا منافع 43.70 فی صد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن پلان - III

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 101 ملین روپے تھے، جب کہ 30 جون 2023 کو یہ 131 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 54.0863 روپے تھی۔ سال کے دوران، پلان نے 48.55 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا، جب کہ بیچ مارک کا منافع 44.25 فی صد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن پلان - IV

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 67 ملین روپے تھے، جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 77 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 57.3736 روپے تھی۔ سال کے دوران، پلان نے 48.28 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا، جب کہ بیچ مارک کا منافع 44.12 فی صد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن پلان - V

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 42 ملین روپے تھے، جب کہ 30 جون 2023 کو یہ 34 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 64.6938 روپے تھی۔ سال کے دوران، پلان نے 46.72 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا، جب کہ بیچ مارک کا منافع 42.10 فی صد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن فنڈ - II

میزان کیپٹل پریزرویشن پلان - IV

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 281 ملین روپے تھے جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 237 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 68.7731 روپے تھی۔ اس سال پلان نے 34.31 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا جبکہ بیچ مارک کا منافع 30.54 فی صد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن فنڈ - III

میزان کیپٹل پریزرویشن پلان - IX

پلان کے خالص اثاثے 30 جون 2024 کو 234 ملین روپے تھے جبکہ 30 جون 2023 کو یہ 237 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 72.8706 روپے تھی۔ اس سال پلان نے 34.49 فی صد کا سالانہ منافع فراہم کیا جب کہ بیچ مارک کا منافع 30.56 فی صد رہا۔

توقعات

مالی سال 24 میں شاندار کارکردگی کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا منظر نامہ انتہائی امید افزا ہے، جس کی وجہ نیا طویل مدتی آئی ایم ایف پروگرام، کم ہوتی ہوئی مہنگائی، زری پالیسی میں نرمی اور پُرکشش قیمتوں کا ہونا ہے۔

نئی پیشرفت میں، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) اور پاکستانی حکام سات ارب ڈالر مالیت کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی از ایجنٹ (ای ایف ایف) کے تحت 7 ارب ڈالر کے اسٹاف لیول معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ قابل ذکر کامیابی حکومت کی جانب سے عمل میں لائے گئے کئی استحکام بخش اقدامات کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ نیا ای ایف ایف پروگرام ایک اہم اور مثبت پیشرفت ہے، جو پاکستان کے بیرونی شعبے کے طویل المدتی منظر نامے کو مستحکم کرتا ہے۔ یہ پروگرام دوسرے کثیر الجہتی اور دو طرفہ اداروں سے غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے کھولنے میں بہت اہم ہے، جس سے ملک کے غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا اور بیرونی ادائیگیوں کے محاذ پر دباؤ کم ہوگا۔

مزید برآں، CPI افراط زر کی شرح اپنے حالیہ نقطہ عروج سے نیچے کی طرف آرہی ہے۔ جون 2024 کے لیے افراط زر کی شرح 12.6 فی صد ریکارڈ کی گئی ہے جس کے بارے میں توقع ہے کہ یہ آنے والے مہینوں میں مزید کم ہوگی۔ مالی سال 25 کے لیے اوسط افراط زر کی شرح 10 فی صد سے 12 فی صد کے درمیان رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جو پالیسی شرح میں مزید کمی کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کرتی ہے جو کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے خوش آئند ہوگی۔



مزید برآں، تقریباً 8 گنا کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا کے فارورڈ P/E تناسب اور 12 فی صد کے نقد منافع منقسمہ کے باعث حصص کی قیمتیں تاریخی لحاظ سے پرکشش ہیں، جب کہ منتخب بلیو چپ حصص 15 فی صد سے زائد نقد منافع منقسمہ پیش کرتے ہیں۔

فلسڈ انکم کے مجاز پر، سکوک کے اجراء میں اضافہ متوقع ہے کیوں کہ حکومت اسلامی مالی ذرائع کے تناسب کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ توقع کے عین مطابق، وزارت خزانہ نے حال ہی میں 900 ارب روپے مالیت کے اثاثے متعارف کرائے ہیں تاکہ نئے مالی وسائل حاصل کیے جاسکیں۔ اضافی طور پر، 3 سال کی وقفے کے بعد، بینک دولت پاکستان (ایس بی پی) نے بھی اسلامی بینکوں اور ونڈوز کے ساتھ بیج معجل لین دین کا آغاز کیا ہے تاکہ اسلامی مالیت کا مجموعی حصہ بڑھایا جاسکے۔ یہ کم ہوتی ہوئی شرح سود کے ماحول میں طویل مدت کے لیے فنڈز جمع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور سیالیت کی انتظامیہ میں بہتری لاتا ہے۔ افراط زر کے دباؤ میں کمی کے بعد، ہم مالی سال 25 میں پالیسی شرح میں بتدریج کمی کی توقع رکھتے ہیں۔ فلسڈ انکم فنڈز پالیسی شرح میں کسی بھی تبدیلی کو جذب کرنے کے لیے اچھی طرح تیار ہیں، جو زیادہ تر چھ ماہ کے عرصہ بعد ری سیٹنگ کرنے والی میکانزم کے ساتھ درمیانی مدت کے انسٹرومنٹس میں رکھے ہوئے ہیں۔ مزید برآں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ کارپوریٹ انسٹرومنٹس پر پیش کردہ اسپرڈز میں بہتری آئے گی۔

Auditors

S. No	Fund Name	Name of auditors as of June 30, 2024	Status of appointment for the year ending June 30, 2025
1.	Al Meezan Mutual Fund	M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants	M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants have been approved by the Board on recommendation of Board Audit Committee to be the auditors of the Funds.
2.	KSE Meezan Index Fund		
3.	Meezan Asset Allocation Fund		
4.	Meezan Balanced Fund		
5.	Meezan Cash Fund		
6.	Meezan Daily Income Fund		
7.	Meezan Dedicated Equity Fund		
8.	Meezan Energy Fund		
9.	Meezan Islamic Fund		
10.	Meezan Islamic Income Fund		
11.	Meezan Pakistan Exchange Traded Fund		
12.	Meezan Rozana Amdani Fund		
13.	Meezan Sovereign Fund		
14.	Meezan Strategic Allocation Fund	M/s Yousuf Adil & Co., Chartered Accountants	M/s Yousuf Adil & Co., Chartered Accountants have been approved by the Board on the recommendation of Board Audit Committee to be the auditors of the Funds.
15.	Meezan Strategic Allocation Fund-II		
16.	Meezan Strategic Allocation Fund-III		
17.	Meezan Financial Planning Fund of Funds		
18.	Meezan Fixed Term Fund		
19.	Meezan Gold Fund		
20.	Meezan Tahaffuz Pension Fund		
21.	Meezan GOKP Pension Fund		

بورڈ اجلاس

فنڈز کے مالی کھاتوں کے نوٹس میں بورڈ اجلاسوں کی تفصیلات اور حاضری دی گئی ہے۔ مالی سال کے دوران کسی بھی وقت خدمات انجام دینے والے ڈائریکٹرز کے نام:

Name of Directors	Name of Directors
Mr. Ariful Islam*	Mr. Irfan Siddiqui
Mr. Saad Ur Rahman Khan	Syed Amir Ali
Muhammad Abdullah Ahmed*	Mr. Moin M. Fudda***
Mr. Feroz Rizvi	Mr. Furquan Kidwai
Mr. Naeem Sattar*	Ms. Danish Zuberi
Mr. Ahmed Iqbal Rajani	Ms. Shazia Khurram
Mr. Tariq Mairaj	Mr. Mohammad Shoaib, CFA**

* Mr. Ariful Islam, Mr. Muhammad Abdullah Ahmed and Mr. Naeem retired from the Board on December 31, 2023.

** Mr. Mohammad Shoaib resigned as the CEO on February 29, 2024.

*** Mr. Moin Fudda resigned from the Board on March 14, 2024.

ڈائریکٹرز کا انتخاب

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے غیر معمولی عمومی اجلاس (EOGM) 26 دسمبر 2023 کو منعقد ہوا۔ دس (10) ڈائریکٹرز، بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر، یکم جنوری 2024 سے تین (3) سال کی مدت کرنے کے لیے منتخب ہوئے۔

سی ای او کی تقرری

جناب امتیاز گڈر کو الیمیز ان انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ جناب امتیاز گڈر نے یکم اگست 2024 کو سی ای او کے طور پر اپنا عہدہ سنبھالا۔

بورڈ کی تشکیل

CCG کی ضروریات کے مطابق، کمپنی آزاد اور غیر انتظامی ڈائریکٹرز کی نمائندگی اور صنعتی تنوع کو فروغ دیتی ہے۔ المیز ان کا بورڈ 10 ارکان پر مشتمل ہے جس میں 8 مرد اور 2 خواتین ڈائریکٹرز شامل ہیں۔ بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کی موجودہ تشکیل درج ذیل ہے:

Non-Executive Directors	Mr. Irfan Siddiqui – Chairman Mr. Saad Ur Rahman Khan Syed Amir Ali Mr. Tariq Mairaj Mr. Ahmed Iqbal Rajani Ms. Shazia Khurram
Independent Directors	Mr. Feroz Rizvi Mr. Furquan Kidwai Ms. Danish Zuberi
Executive Director*	Mr. Imtiaz Gadar – Chief Executive Officer

* Appointed on August 01, 2024

Board Committees	Members/Chairman
Board Audit Committee	1. Mr. Feroz Rizvi – Chairman 2. Mr. Ahmed Iqbal Rajani – Member 3. Mr. Tariq Mairaj – Member
Board Risk Management Committee	1. Mr. Saad Ur Rahman Khan – Chairman 2. Mr. Furquan R Kidwai – Member 3. Ms. Shazia Khurram – Member
Board Human Resources & Remuneration Committee	1. Mr. Irfan Siddiqui – Chairman 2. Mr. Saad Ur Rahman Khan – Member 3. Mr. Mr. Furquan R Kidwai – Member 4. Mr. Imtiaz Gadar – Member
Board IT Committee	1. Mr. Furquan Kidwai – Chairman 2. Mr. Imtiaz Gadar – Member 3. Mr. Faiz Ur Rehman, Subject Matter Expert

بورڈ کی جانچ

بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیاں اہل پیشہ و افراد پر مشتمل ہیں جو متنوع تجربہ کے حامل ہیں اور آرگنائزیشنل سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ بورڈ اور اس کی کمیٹیاں جدید گورننس کے کردار سے اچھی طرح باخبر ہیں اور بزنس ماڈل، مجموعی اہداف، خطرات لینے کے لیے طرز عمل اور آرگنائزیشنل رویے کی حدود کے لیے اسٹریٹجک سمت متعین کرتی ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیاں باقاعدگی سے اپنی کارکردگی کا خود جائزہ لیتی ہیں۔ اس طرح، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کی طرف سے ہر سال ایک جامع بورڈ ایویلیویشن سوالنامہ منظور کیا جاتا ہے۔ خود جائزہ سوالنامہ جمع کروانے کے بعد، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کی جانچ کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور ضروری اقدامات بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے چیئر پرسنز سے مشاورت کے بعد عمل میں لائے جاتے ہیں۔

ڈائریکٹرز کا مشاہرہ

کمپنی کے پاس ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کے لیے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور گینیز ایکٹ 2017 کے مطابق ایک باقاعدہ اور شفاف طریقہ کار موجود ہے۔ مشاہرہ مارکیٹ رجحان اور بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے ارکان کی طرف سے پیش کردہ ذمہ داری اور مہارت کی سطح کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے ارکان کا مشاہرہ بورڈ کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے جو اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور کیا جاتا ہے۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، جو ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، کسی بھی بورڈ مینٹنگ یا بورڈ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے مشاہرہ کے اہل نہیں۔ مزید برآں، کمپنی نان ایگزیکٹو، بشمول آڈٹ ڈائریکٹرز کو، ماسوائے اجلاسوں میں شرکت کرنے کی فیس کے، کوئی مشاہرہ ادا نہیں کرتی۔

اعتراف

ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گراں قدر سرمایہ کاروں سے ان کے المیز ان انویسٹمنٹس پر بھروسہ کے لیے تشکر کا اظہار کرتے ہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی ایسیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے۔ ہم ضابطہ کار، سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان اور ہمارے ٹرسٹی، سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان سے بھی ان کی بھرپور اعانت و مدد کے لیے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ اسی طرح، میزان بینک کے اراکین شریعہ سپروائزر اور بورڈ کا ان کے مسلسل تعاون اور فنڈ مینجمنٹ کے شریعہ سے متعلق پہلوؤں پر اعانت کے لیے بھی شکر یہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔

امتیاز گڈر

چیف ایگزیکٹو آفیسر

بتاریخ 19 اگست 2024

ڈائریکٹر



Al Meezan
Investment Management Ltd.

AM1
Rating by VIS & PACRA

FUNDS





Al Meezan
Investment Management Ltd.

CONTACT US

0800-HALAL(42525) | SMS “invest” to 6655
www.almeezangroup.com

We Are Available On Social Media



Al Meezan mein Itminan hai.



Download
Al Meezan Investments Mobile Application
Now!

For investment services and advice
visit any Al Meezan or Meezan Bank Branch across Pakistan



A Subsidiary of

Meezan Bank

The Premier Islamic Bank

Disclaimer: All investments in Mutual Funds and Pension Fund are subject to market risks. Past Performance is not necessarily indicative of future results. Please read the offering document to understand the investment policies, risks and tax implication involved.

Use of the name and logo of Meezan Bank Limited as given above does not mean that it is responsible for the liabilities/obligations of Al Meezan Investment Management Limited or any investment scheme managed by it.

Our Shariah Advisor is Dr. Muhammad Imran Ashraf Usmani whose registration reference number is (SECP/IFD/SA/005).

Note: The role of Meezan Bank Limited (MBL) is restricted to distribution of Mutual Funds only.